

# فہرستِ مَضْنَانِ مِيْدَن

عنوان

پیش لفظ

**پہلا سبق** — حرفاً اول یا چند صورتی نکات  
 ایک اہم سوال، موت خاتمه ہے یا ابتدا؟  
 اکثر انسان موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟  
 موت سے اس خوف کی اصل دلیل۔  
 موت کی تفسیر اور سیاہ نامہ اعمال۔  
 موت کے بارے میں دو مختلف نظریے۔  
 قیامت زندگی کو مفہوم دیتی ہے۔

دوسرہ سبق

اگر اسی عارضی زندگی کے بعد دوسری زندگی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟  
 قیامت پر ایمان تربیت کے لئے ایک اہم چیز ہے۔  
 روز خشر کی عدالت اور دنیاوی عدالتوں میں فرق  
 قیامت کی عدالت کا نونز خود تہیارے ضمیر میں موجود ہے  
 انسان کا کتنی عدالتوں میں محاکمہ ہوتا ہے؟  
 پہلی عدالت اور اس کی خصوصیات۔

تیسرا سبق

دوسری عدالت اور اس کی خصوصیات  
 تیسرا عدالت کی خصوصیات کی حامل ہے؟

**چونکہ اس بیان کے نتائج اور امتیازات**  
**قیامتِ نظرت کی تجربی گاہ میں**  
**لبقاء سے محبت**

قدیم قوموں کے درمیان روز خشن کا عقیدہ  
 یاطنی محاکمہ کا وجود اور قیامت کا فطری ہونا۔

**پانچواں سبق** — قیامت اور انصاف کی ترازو  
 تمام آسمان و زمین انصاف کی بنیادوں پر قائم ہیں  
 اختیار اور ارادہ کی آزادی

**چھٹا سبق** — پاریا ہم نے قیامت اسی دنیا میں دیکھی ہے۔  
 مشکلین مسئلہ قیامت پر کیوں تجھب کرتے ہیں ؟  
 قرآن اور موت کے بعد زندگی ہونا

**ساقتوال سبق** — قیامت اور تخلیق کا فلسفہ  
 خدا نے ہمیں کیوں خلقت کیا ؟  
 آیا یہ دنیا دی زندگی ہماری خلقت کا مقصد بن سکتی

**ہاتھواں سبق** — روح کی بقاء، قیامت کے لئے ایک علامت ہے۔  
 روح مادی اور الہی فلاسفہ کی نظر میں۔  
 ایک بڑی دنیا کو چھوٹی ٹسی فضائیں نہیں رکھا جاسکتا۔  
 روح کی بیردی فضائے رابطہ کی خصوصیت۔  
 روح کی اصلیت اور استقلال پر تجربی دلائل۔

**نواں سبق** — جسمانی اور روحانی قیامت۔

آیا قیامت جسمانی ہے یا جسمانی اور روحانی ؟  
جسمانی قیامت کا قرآن سے ثبوت -  
عقل اور قیامت جسمانی -

جسمانی قیامت کے بارے میں بعض سوالات اور ان کے  
جوابات -

**دسوال سبق** - بہشت اور دوزخ اور اعمال کا جسم ہو کر ظاہر  
ہونا.

کیا موت کے بعد دالی دنیا اسی دنیا کی طرح ہے ؟  
آیا اس دنیا کی حکومت کا نظام بھی اسی دنیا کے نظام  
حکومت کی طرح ہے ؟  
اعمال کا جسم ہو کر ظاہر ہونا .



دکھنے سبق


هدیۃ۔ هدیۃ۔ هدیۃ  
المجمع العالمي لأهل البيت (ع)  
The Ahl - ul - Banat World Assembly  
[www.ahl-ul-banat.org](http://www.ahl-ul-banat.org)

# قیامت شاہی

(جو انوں کے لئے)

انقلام۔ آیتہ اللہ ناصر مکارم شیرازی

پیشکش۔ بعثت فاؤنڈیشن۔ تهران، ایران



نامه کتاب

### قیامت مشناسی

آیت‌الله ناصر کاظم شیرازی

ترتیب - آنچه بیان خواهد گردید. بی. ایس. آی. آنچه نگفته شود. ایم. آی. آنچه

کاتب - صفاتی‌الدین بارده بکوی. ناصر بارده روڈ رائفل جویلی پیش‌آماد

پریشکش - پشت فاقد دیش. تهران. ایران

سازمان اثاثت. ساله عزیز، ۱۹۹۰

قیمت. ۱۰ روپے

لَهُ مُلْكُ الْأَرْضِ  
وَالنَّاسُ إِلَيْهِ يَوْمًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
إِنَّا لِلنَّاسِ مِنَ الْأَنْجَانِ

پہلے سبق

## ایک اہم سوال

### موت خاتم ہے یا ابتدا؟

- اکثر ان موت سے کیوں ڈرتا ہے۔
- موت سے خوف کی اصل دلیل۔
- موت کی تفسیر اور سیاہ نامہ اعمال۔
- موت کے بارے میں دو مختلف نظریے۔

جَسِيمُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الْأَرْجَيْ

## اکثر انسان موت سے ڈرتے ہیں، آخڑ کیوں؟

موت ہمیشہ سے ایک وحشتناک شکل میں مجسم ہو کر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آتی ہے۔ اور اس کا تصور ہی زندگی کے شیریں شربت کو بہت تلقع اور ناگوار بنتا دیتا ہے۔

لوگ موت کے نام ہی سے صرف نہیں ڈرتے بلکہ قبرستان کے نام سے بھی نفرت کرتے ہیں اور قبروں اور مقبروں کی چکاں دمک سے موت کی اعلیٰ ماہیت کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔

دنیا کے مختلف ادب میں موت کا یہ وحشتناک تصور پوری طرح سے نہایا ہے۔ اور ہمیشہ ”موت کا بھیانک ہی ہوئی“، ”موت کا پنجھ“ اور ”موت کا طما پچ“ جیسی تعبیروں سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔

جب لوگ کسی مردہ کا نام لیتا چلتے ہیں تو اس لئے کہ سننے والا کسی وحشت کا شکار نہ ہواں طرح کے جملے بولتے ہیں: ”اس زمانے سے دور“، ”میری زبان گنگ ہو جائے“، ”سات پہاڑی بیج میں آجائیں“، ”اس کی خاک کے ذرروں کے برابر آپ کی عمر ہو“! اعزضیکہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ سننے والے اور موت کے خیال کے درمیان ایک دلیوار کھینچ جائے۔

لیکن ہمیں چاہیے کہ تجویز کریں اور دیکھیں کہ موت کے بارے میں لوگوں کی

وحوش کی اصل و مبہم کیا رہی ہے؟  
 اس عام خیال کے برخلاف لوگوں کا کیوں ایک ایسا گروہ ہے جو نظر یا کہ  
 موت سے ہر اس انہیں ہوتا بلکہ ان کے چہروں پر بتسمہ کھینتا ہے اور وہ موت کے  
 استقبال میں اختصار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔

ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ایسی حالت میں جب کہ لوگوں کا ایک گروہ آب جاتا  
 اور جوانی کے لئے اکیرہ داؤں لی تلاش کرتا تھا تو ایک گروہ ایسا بھی تھا جو جہاد  
 کے لئے مورچوں کی طرف عاشقانہ طور پر پڑھتا تھا اور موت کا مذاق اڑاتا تھا۔  
 اور کبھی کبھی یہ لوگ اپنی طولانی زندگی کا گلکار تھے اور ایک ایسے دن کی آزادی  
 کرتے تھے جب وہ اپنے محبوب اور اپنے خدا کا دیدار کریں گے اور اس سے لمحن  
 ہو جائیں گے اور آج بھی ہم حق و باطل کی جنگ میں تمام مورچوں پر اس حقیقت  
 کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ شہادت کے استقبال میں کیونکہ تھیلیوں پر اپنی جانیں  
 لئے ہوتے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔

★ ★ ★

## موحّث سے خوف کی اصلی دلیل

غور و منکر اور تحقیق کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ موت سے ہمیشہ<sup>۱</sup>  
 کی وحوش کی صرف دو وجہات ہیں۔

### افقاً کے معنوں میں موت کی تفسیر

انسان ہمیشہ منا سے گریزاں رہتا ہے۔ بیماری سے بچتا ہے کیونکہ

اس کا عدم وجود ہی اس کی اسلامی اور بقاء ہے۔ اندھیرے سے اسے وحشت ہوتی ہے کیونکہ اسکی عدم موجودگی روشنی ہے۔

انسان فقیری سے ڈرتا ہے کیونکہ اس کی عدم موجودگی اس کو غصی کرتی ہے۔

یہاں تک کہ جی سچی غالی گھر سے اسے وحشت ہوتی ہے اور ایک خالی بیان میں وہ خوف کاشکار ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی دوسرا بیان موجود نہیں ہوتا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ انسان خود مردہ سے جبی ڈرتا ہے مثلاً وہ اس بات کے لئے آمادہ نہیں ہوتا کہ کمرہ میں اگر کوئی مردہ ہے تو رات میں وہاں رہے حالانکہ جب کسی مردہ زندہ مختال وہ اس شخص سے بالکل نہیں ڈرتا تھا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان عدم اور نیتی سے کیوں ڈرتا ہے اور وحشت کرتا ہے۔ اسی دلیل واضح ہے۔ نیتی کا سبقتی سے ربط و صبط ہے اور وجود کی وجود کے ساتھ آشنا ہے۔ وجود کی عدم سے ہرگز شناسائی نہیں ہوتی۔ بس اسی طرح عدم کے ساتھ ہماری بیگانگی بھی بالکل فطری ہے۔

اب اگر ہم موت کو ہر چیز کا خاتمہ سمجھتے ہیں اور یہ خال کرتے ہیں کہرنے سے ساری چیزوں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہم کو حق ہے کہ ہم موت سے ڈریں اور یہاں ہک کر اس کے نام اور خیال سے وحشت کریں۔ کیوں کہ موت ہم سے رہی چیزوں چھین لیتی ہے۔

لیکن اگر ہم موت کو ایک نئی زندگی اور بیانات جاودائی کے آغاز کا درجہ اور عظیم عالم کی طرف ایک دریچے چھین لوقطری طور پر نہ صرف یہ کہ موت سے ہیں وحشت نہیں ہوگی بلکہ نہ راس پاک اور کامیاب شخص کو جو موت کی طرف قدماً بڑھتا گا مبارکباد پیش کریں گے۔

## ۲۔ سیاہ نامہ اعمال

لوگوں کے ایسے گروہ کو بھی ہم جانتے ہیں جو موت کی تفیر فنا اور نابودی کے معنی میں نہیں کرتے اور موت کے بعد کی زندگی کے بھی منکر نہیں ہیں لیکن اسکے باوجود موت سے ڈرتے ہیں۔

کیونکہ ان کا نامہ اعمال اس قدر سیاہ و تاریک ہے کہ وہ موت کے بعد کی دردناک سزاویں سے وحشت رکھتے ہیں۔

ایسے لوگ حتی بجانب ہیں کہ موت سے ڈریں۔ یہ ان خطرناک مجرموں کی مانند ہیں جو قید خازن میں ہیں اور آزادی سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ان کو قید خازن سے باہر لے جایا جائیگا فوراً سچانی کے تحترم کے سپرد کر دیا جائے گا۔

یہ شخص قید خازن کی سلافوں سے مصنوب طی سے چپکا رہتا ہے۔ اس لئے نہیں کہ وہ آزادی سے لفڑت کرتا ہے بلکہ وہ ایسی آزادی سے ڈرتا ہے جس کے نتیجہ میں اسے سچانی کی سزا دیدی جائے گی۔ اسی طرح وہ بد کار لوگ جو اپنے جسموں کے تنگ پنجڑوں سے اپنی روحوں کی آزادی کو اس بات کا مقدمہ سمجھتے ہیں کہ انکے پرستے قابل ننگ اور ظلم و ستم اور تباہ کاری کے اعمال کی وجہ سے زبردست شکنخوں سے ان کو سزا دی جائے گی، موت سے وحشت رکھتے ہیں۔

لیکن جو لوگ نہ تو موت کو اپنی مناسبتی ہیں اور نہ ہی ان کا نامہ اعمال

سیاہ و تاریک ہیں وہ کیوں موت سے ڈریں گے؟

بلاشک یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیادی زندگی کو بھی چاہتے ہیں مگر مرف

اس لئے کہ موت کے بعد آخوندی میں اپنی نئی زندگی کے لئے اس دنیاوی زندگی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اس موت کا بجا پنے اصل مقصد اور افتخار اور خدا کی خوشنودی کی راہ میں ہو، خیر مقدم کرتے ہیں۔

★ ★ ★

## دو مختلف نظریے

ہم بیان کرچکے ہیں کہ لوگوں کے دو گروہ ہیں اور وہ گروہ جس میں لوگوں کی اکثریت شامل ہے موت سے بیزار اور متنفر ہے۔

لیکن دوسرے گروہ کے لوگ اس موت کا بوا یک عظیم مقصد مشتمل ادا کی راہ میں شہادت کے لئے ہو، خیر مقدم کرتے ہیں۔ یا کم از کم جس وقت احساس کرتے ہیں کہ ان کی عمر بھی اب خاتمہ کے قریب پہنچ چکی ہے تو ان کے دل میں کسی طرح کے غم و اندوہ کا گذرنہیں ہوتا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ دلوں گروہ دو مختلف نظریے رکھتے ہیں۔

### پہلا گروہ :

اس گروہ کے لوگ یا تو موت کے بعد کی دنیا (آخوندی) پر ایمان ہی نہیں رکھتے اور یا اگر ایمان رکھتے بھی ہیں تو ابھی اس پر ان کو یقین نہیں آیا ہے لہذا موت کے لمحہ کو ہر چیز سے اپنی جدالی کا محض مجھتے ہیں۔ البتہ ہر چیز سے جدا ہونا بڑا احتشام کے روشنی اور نور سے مکمل اندر چھیرے کی طرف قدم ٹرھانا ہی کہ کے بھرا ہے۔ اسی طرح قید خانہ سے آزاد ہونا اور ایک عدالت کی طوف اس شخص کا جانا،

(جو مجرم ہے اور جس کے جرم کا پورا ثبوت ثابت ہو چکا ہے بھی وحشت انگریز اور ہولناک ہے ۔

## دوسرے گروہ :

لیکن دوسرے گروہ کے لوگ موت کو ایک نئی زندگی تصور کرتے ہیں ۔ اور موت کو دنیا کے محدود دنیا کے ماحول سے جلد بکلنے کا ذریعہ اور ایک وسیع و عریض و روشن دنیا کی طرف جانا تصور کرتے ہیں ۔

ان کے لئے موت ایک تنگ اور جھوٹے پنجھے سے آزاد ہونا اور وسیع آسمان کی فضائیں پرواز کرنا ہے اور ایک ایسے ماحول سے جو جھگڑوں، کشماشوں، تنگ نظریوں، بے انصافیوں، کینہ پر یوں اور جنگوں کام کرے ہو، باہر بکلنے ہے نیز ایک ایسے ماحول کی طرف قدم ڈھاننا ہے جو ان تمام آلو دگیوں سے پاک ہے ۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو ایسی موت سے وحشت نہیں ہوتی ۔ بلکہ وہ "وحشت علی" کی طرح کہتے ہیں : لابن ابی طالب النبی بالموت من الطفل بشدی امداد : (خدای کی قسم ایک شیر خوار بجپے کو جطرخ اپنی ماں کے پستان سے مجحت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ مجحت فرزند ابو طالب کو موت سے ہے ۔

یا یہ لوگ فارسی زبان کے ایک شاعر کی طرح اس آواز پر سرد ہستے ہیں :

تادر آغوش بگیرم تنگ تنگ !

من زاو جانی ستانم جا دان

او زمن ولقی ستاند زنگ رنگ !

(اگر موت مرد (بہادر ہے) تو اس سے کہو میرے سامنے آئے تاکہ میں اسے

بیخ بیخ کر کو دیں لوں۔ میں اس سے اپنی ہدیت رہنے والی زندگی لے لوں اور وہ مجھ سے درودیتی کا رنگ برلنگابا اس لے لے ۔

یہ بلا سبب نہیں ہے کہ تاریخِ اسلام میں ہم کو حضرت امام حسینؑ اور ان کے جانشار اصحاب جیسے افراد نظر آتے ہیں کہ جیسے جیسے ان کی شہادت کا وقت نزدیک آتا تھا ان کے چہرے اتنے ہی زیادہ شاداب و درخشان ہوتے جاتے تھے اور وہ اپنے محبوب کے دیدار کے شوق میں پھولے نہیں سملتے تھے۔ اور اس کے علاوہ حضرت علیؓ کی پرافتحار زندگی کی تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ جس وقت ان کے سر پر (مسجدہ میں) تلوار پڑی تو کہتے جاتے تھے: "فزن  
برب الکعبۃ" یعنی "کعبہ کے خدا کی قسم میں کامیاب و مطمئن ہوا"! ظاہر ہے کہ اس بیان سے میظور نہیں ہے کہ انسان خود کو خطرے میں ڈال دے۔ اور زندگی کی اس عظیم نعمت کی قدر نہ کرے۔ اور اہم مقاصد تک پہنچنے کے لئے اس زندگی سے فائدہ نہ اٹھائے۔

بلکہ اس بیان سے میظور ہے کہ انسان زندگی سے صحیح طور پر استفادہ کرے۔ لیکن زندگی کے خاتمے سے ہرگز ہر انسان نہ ہو خاص طور پر اگر یہ خاتمہ ایک عظیم و بلند مقصد کی راہ میں ہو۔

## سوچئے اور جواب دیجئے!

- ۱۔ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اور اس ڈر کی کیا وجہات ہیں؟
- ۲۔ کیوں ایک گروہ موت کا خیر مقدم کرتا ہے اور خدا کی راہ میں شہادت کا مشتاق رہتا ہے؟
- ۳۔ موت کے لئے کوئی کس چیز سے تشبیہ دی جاسکتی ہے؟ پرہیز مکار و مومن حضرات موت کے بارے میں کیا احساسات رکھتے ہیں اور تقویٰ و ابہان سے بے بہرہ افسرداد موت کے نئے کیا احساسات رکھتے ہیں؟
- ۴۔ کیا اپنی عمر میں آپ نے اپنی آنکھوں سے ایسے انسانوں کو دیکھا ہے جو موت سے نہ ڈرتے ہوں؟ ان کو دیکھ کر آپ میں کیا اثرات مرتب ہوئے؟
- ۵۔ حضرت علیؓ کی نظر میں موت کا فلسفہ کیا تھا؟



حَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
وَلِلَّهِ يَسْأَلُ  
فَمَنْعَلٌ لِلْمَنْعَلِ  
نَجْعَلُ عَلَيْهِ



## دوسرا سبق

قیامتِ زندگی کو  
ایک مفہومِ دینی ہے

اگر اس عارضی زندگی کے بعد دوسری زندگی نہ ہوتی  
تو کیا ہوتا ہے؟

قیامت پر ایمان تربیت کے لئے ایک اہم  
چیز ہے۔

روز خشن کی عدالت اور دنیا وی عدالت کوں یہ فرق ہے۔

## اگر اس عارضی زندگی کے بعد دوسری زندگی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟

اگر تم اس دنیا کی زندگی پر بغیر دوسری دنیا (آخرت) کی زندگی کے وجود کے نگاہ ڈالیں تو وہ بے مقصد اور سبکار نظر آتے گی۔

یہ بالکل اسی طرح ہو گا جس طرح ہم شکم مادر میں بچہ کی زندگی کا بغیر اس دنیا کی زندگی کے وجود کے تصور کریں۔

ایک بچہ جو شکم مادر میں ہوتا ہے اور اس مدد و دوستیک قید خانہ میں ہمیںوں مقید رہتا ہے اگر وہ عقل و خود رکھتا ہو اور وہ اپنی شکم مادر کی اس زندگی کے بارے میں خود کرے تو اسے ضرور تعجب ہو گا۔

کیوں میں اس تاریک قید خانہ میں مقید ہوں؟

کیوں میرے لئے ضروری ہے کہ پانی اور خون کے درمیان اپنے ہاتھ پیرا روں؟

آخزمیری اس زندگی کا کیا نتیجہ نکلے گا؟

میں کب سے آیا ہوں اور کیوں آیا ہوں؟

یکن اگر اس بچہ کو ہم بتائیں کہ تمہاری زندگی کا یہ دور ایک ابتدائی دور ہے اور تمہارے جسم کے اعضا دنیا میں جستجو اور حرکت کرنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں اور ایک بڑی دنیا میں جستجو اور حرکت کرنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں۔

لو ہمیٹنے گزر نے کے بعد اس قید خانہ سے تمہاری آزادی کا حکم صادر ہو گا۔

اس کے بعد تم ایک ایسی دنیا میں قدم رکھو گے جس میں چمکتا ہوا آفتاب اور دمکتا ہوا ماہتاب سرپر زرد رخت اور بہتے ہوئے پانی کی نہریں اور مختلف نعمتیں ہیں۔ تو اس وقت یہ بچہ ایک اطینیان کی سائنس لیتا ہے اور کہتا ہے اچھا ب میں سمجھا کر اس قید خانہ میں میرے وجود کا کیا مقصد ہے؟

یہ دور زندگی ایک ابتدائی مرحلہ ہے، یہ ایک چھلانگ لگانے کے لئے تخت ہے، یہ ایک بڑی یونیورسٹی میں پہنچنے کے لئے ایک درجہ ہے۔ البتہ اگر اس دنیا کی زندگی کا راست رابطہ شکم مادر میں بچہ کی زندگی سے کاٹ دیا جائے تو اس کے لئے سب کچھ تاریک اور بے مقصد ہو جائے گا اور اس کی قید ایک دھشتانک قید ہو جائے گی اور یہ قید کہ دینے والی اور بے نتیجہ ہوگی۔



اس دنیا کی زندگی کا موت کے بعد کی زندگی سے رابطہ بھی اسی طرح کا ہے۔

ہمارے لئے کیا ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں ساری مشکلات کے دریاں ستر سال یا اس سے کم یا زیادہ مدت تک ہاتھ پر ماریں؟ ایک مدت تک ہم کچھ اور ناتحریک کار رہتے ہیں اور جب ہم پختہ اور تحریک کار ہوتے ہیں تو ہماری عمر ختم ہو جانے والی ہوتی ہے! ہم کو رسولوں تک علم و دانش حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور جس وقت ہم معلومات کے اعتبار سے پختہ ہو جاتے ہیں تو ہمارے سر پر ٹھاپلے کی برف پڑ چکی ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ کس بات کے لئے ہم زندہ رہیں؟ کھانا کھانے کے لئے،  
بایس پہنچ کے لئے اور سونے کے لئے؟ اور اسی طرح زندگی کو دیسیوں سال  
دہرانے کے لئے؟

کیا یہ کشادہ آسمان، یہ وسیع زمین، اور یہ سارے ابتدائی مراحل یہ سارے  
علوم اور تجربوں کا حاصل کرنا، یہ سب اساتذہ اور تربیت کرنے والے کیا سب  
اسی کھانے پینے اور اس پہنچ اور اختطاط پذیر ایک ہی طرح کی زندگی  
کے لئے ہے؟

یہاں پر ان لوگوں کے لئے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں یہ زندگی  
کھو کھلی ثابت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ وہ نتوان چھوٹے چھوٹے کاموں کو زندگی  
کا مقصد ہی قرار دے سکتے اور زدہ موت کے بعد کی دنیا (آخرت) ہی پر ایمان  
رکھتے ہیں۔

لہذا یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ان لوگوں کا ایک گروہ ایسی بے مقصد اور  
کھو کھلی زندگی سے سخت کے لئے خود کشی کا قدرام کرتا ہے۔  
لیکن اگر ہم یقین کریں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کاشتکاری کیلئے  
ایک وسیع زمین ہے جیسیں ہم بیچ بونے کا کام کریں اور اس کی فضل ہم ایک بڑی  
اور جاودائی زندگی میں کاٹیں۔

دنیا ایک یونیورسٹی ہے جس میں ہمیں چاہئے کہ معلومات حاصل کریں،  
اور خود کو ایک چھیشدہ رہنے والی دنیا کی زندگی کے لئے تیار کریں اور دنیا ایک گذرگاہ  
اور میل ہے جس سے ہمیں چاہئے کہ گزر جائیں۔

ایسی صورت میں دنیا اوری زندگی کھو کھلی اور بے معنائز سوگی۔ بلکہ  
ایک ابتدی اور جاودائی زندگی کے لئے ایک ابتدائی مرحلہ ہو گی جس کی راہ میں

ہم جس قدر کوشش رہیں کم ہے۔  
ہاں ! قیامت پر ایمان انسان کی زندگی کو ایک مفہوم بخشتا ہے۔ اور  
انسان کو بے چینی و خوف اور کھو کھلے چن سے رہائی عطا کرتا ہے۔

★ ★ ★

## قیامت پر ایمان تربیت کے لئے ایک اہم چیز ہے

اس کے علاوہ آرٹ کی عظیم عدالت کے وجود پر اعتقاد ہماری آج کی زندگی  
میں بے حد موثر ہے۔

فرض کیجئے کہ ایک ملک میں یہ اعلان ہو جائے کہ ”سال کے دوران فلان  
دن کسی بھی جرم کی کوئی سزا نہ ہوگی اور اس کے لئے کوئی مقدمہ اور فائل تیار نہیں  
کی جائے گی اور لوگ کسی بھی سزا کے نہ دیئے جانے سے مطمئن ہو کر اس دن کو گذار  
سکتے ہیں۔ پولیس اور انتظامیہ کے افسران کی اس دن جھپٹی رہے گی۔ جیل خانے  
اور عدالتیں اس دن بند رہیں گی۔ یہاں تک کہ دوسرے دن جب عام زندگی  
شروع ہوگی تو اس دن کے جامعہ کے بارے میں عدالتوں میں بحث نہیں ہوگی۔“

سوچئے ! اس دن معاشرہ اپنی کیا شکل اختیار کرے گا۔

روزِ خشر پر ایمان ایک عظیم عدالت پر ایمان ہے جس کا اس دنیا کی عدالت  
سے موازنہ نہیں کیا جاسکتا۔

★ ★ ★

## روزِ حشر کی عدالت اور دنیاوی عدالت میں فرق

اس بحث میں عدالت کی خصوصیات حسب ذیل میں ہیں :

- ۱۔ یہ ایک ایسی عدالت ہے کہ جہاں نہ تو سفارش کا کوئی اثر ہے اور نہ اس حاکم (خدا) کے قوانین پر تعلقات کا کوئی اثر ہے۔ اور نہ ہی اس عدالت کے فیصلے جھوٹوں کے بیانات اور ثبوت سے بدلتے ہیں۔
- ۲۔ یہ ایک ایسی عدالت ہے جس میں اس دنیا کی عدالتوں کی طرح آداب و رسوم نہیں ہیں اور اسی وجہ سے اس میں تاخیر اور تفصیل نہیں ہے۔ یہ برق رفتاری اور واضح طور پر چسکم صادر کرتی ہے۔
- ۳۔ یہ ایک ایسی عدالت ہے کہ لوگوں پر لگائے گئے الزام کا ثبوت خود ان کے اعمال میں۔ یعنی اعمال خود وہاں ماضیز ہوتے ہیں اور اپنے ناعل کے ساتھ اپنا ارتبا اس طرح قائم کرتے ہیں کہ اس کے لئے انکار کرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔
- ۴۔ اس عدالت کے گواہ انسان کے ہاتھ پر کان آنکھیں، زبان اور اس کے جسم کی کھال میں یہاں تک کہ اس لگھ کے درد دیوار جس میں گناہ یا تواب کا کام کیا گیا ہے، گواہ ہوتے ہیں۔ اس طرح کے گواہ ہو انسان کے اعمال کے فطری ثبوت ہوں تا قابل انکار نہیں۔
- ۵۔ یہ عدالت ایک ایسی عدالت ہے جس کا حاکم خود خدا ہے۔ ایسا خدا جو ہر چیز سے باخبر ہر شخص سے بی نیاز اور سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔

۴۔ اس کے علاوہ اس عدالت میں سزا بھیں اور جزا بھیں ایک خاص مدت کے لئے نہیں ہیں۔ اور اکثر خود ہمارے اعمال میں جو ایک شکل اختیار کر دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور جنم کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا آسائش اور نعمتوں میں ہم کو لے جاتے ہیں۔

ان خصوصیات کی حامل عدالت پر ایمان انسان کو ایسے مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ وہ حضرت علیؑ کی طرح کہتا ہے :

” خدا کی قسم اگر ہیں راتوں کو صبح تک بجاۓ زم بتر کے کامنوں پر بر کرو اور دنوں میں ہر سے ہاتھ پیر زنجیر دل میں جکڑے ہوئے ہوں اور مجھے کوچھ و بازار میں کھینچا جائے تب بھی یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہو گا کہ میں اپنے عظیم پروردگار کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوں کہ خدا کے بندوں میں سے کسی بندے پر میں نے ظلم کیا ہو یا کسی شخص کا حق غصب کیا ہو۔ ” (۱)

ایسی عدالت پر ایمان ہی ہے جو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ تپتے اور جلتے ہوئے لوپے کو اپنے سجاوی (عقیل ابن ابی طالب) کے ہاتھ کے قریب لیجاتے ہیں جو بیت المال میں اپنے لئے ترجیح کے خواہاں ہیں۔ اور جس وقت سجاوی کی فریاد بلند ہوتی ہے تو انہیں اضیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں : ” سجاوی ! آپ ایک معمولی سی آگ بوجان اس کے ہاتھوں کا کھیل جائے کے شعلہ سے بے چین ہو کر فریاد کرتے ہیں لیکن اپنے سجاوی کو اس ہولناک آگ کی طرف کر جس کے شعلے خدا کے قہر و غصب سے بھڑک رہے ہیں کھینچتے ہیں ۔ ” (۲)

(۱) شیخ البلاعہ۔ خطبہ ۲۲۳

(۲) شیخ البلاعہ۔ خطبہ ۲۲۴

کیا ایمان کے اس درجہ پر فائز ہے انسان کو دھوکا دیا جاسکتا ہے ؟  
 کیا رشوت سے اس کے ضمیر کو خریدا جاسکتا ہے ؟  
 کیا لالچ اور دھونس سے اس کو حق کی راہ سے باطل کی طرف مخفف  
 کیا جاسکتا ہے ؟ قرآن مجید کہتا ہے : جس وقت آنہنگار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں  
 گے تو اپنی فریاد بلند کریں گے اور کہیں گے : مَا إِنَّهُ لِكَلِبٍ لَا يَحْتَدِدُ حَمَاسَغَيْرِهِ  
 ۚ لَا كَيْزَرٌ رَّالا حَصَمَهَا هَهُ (ہائے چماری شامت !) یہ کسی کتاب پر ہے کہ  
 ز پھوٹے ہی گناہ کو بے قلبی کے چھوڑتی ہے ز بڑے گناہ کو ) ۱۰۰۰.....  
 اور اس طرح ہر کام میں اپنی ذمہ داری کا احساس انسان کی روح کی  
 کہراجیوں میں ایک طاقتور لہر پیدا کر دیتا ہے جو اسے گمراہیوں، نا انصافیوں  
 اور زیادتیوں سے روکتی ہے۔



## سوچئے اور جواب دیجئے!

- ۱۔ اگر اس دنیا کی محدود داد و عارضی زندگی کے بعد ایک دوسری دنیا (آخرت) نہ ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟
- ۲۔ توحید اور قیامت کے منکرین کا ایک گروہ کیوں خودشی کا اقدام کرتا ہے؟
- ۳۔ روزِ حشر کی عدالت اور اس دنیا کی عدالت میں کیا فرق ہے؟
- ۴۔ قیامت پر ایمان انسان کے عمل پر کیا اثر و انتہا ہے؟
- ۵۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے کیا کہا ہے؟ وہ کیا چاہتے تھے اور حضرت علیؑ نے ان کو کیا جواب دیا ہے؟





**MAY ALLAH  
BLESS YOU**

تیر اسپیل

## قیامت کی عدالت کا نمونہ

### خود تمہارے ضمیر میں موجود ہے

انسان کا کتنی عدالتوں میں محاکمہ ہوتا ہے۔

پہلی عدالت اور اس کی خصوصیات۔

دوسری عدالت اور اس کی خصوصیات۔

تیسرا عدالت کی خصوصیات کی حامل ہے۔

ضمیر کی عدالت کے امتیازات اور ناقص۔

## انسان کا کتنی عدالتوں میں محکمہ ہوتا ہے

چونکہ موت کے بعد زندگی اور قیامت کی عظیم عدالت کا مسئلہ انسان کے لئے بوجر اس دنیا مکمل و دقيق خانہ میں ہے بالکل نیا ہے خداوند عالم نے اُس عدالت کا ایک جھوٹا سا نمونہ اسی دنیا میں ہم کو عطا کیا ہے جس کا نام صفر کی عدالت ہے لیکن ہمیں فرموش نہیں کرنا چاہتے جیسا کہ ہم اس کا ایک جھوٹا سا نمونہ ہے۔

اس مسئلہ پر زیادہ وضاحت سے بیان پیش کرتے ہیں :  
انسان جس اعمال کو انجام دیتا ہے اس کا حساب چند عدالتوں میں ہوتا ہے۔

## پہلی عدالت اور اسکی خصوصیات

سب سے پہلی عدالت یہی معمولی ان لئے عدالتیں ہیں۔ البتہ اپنی تمام محکمہ دریوں اور خامیوں کے ساتھ اگرچہ اسکی معمولی عدالتوں کا وجود جرائم کی تخفیف کے لئے کافی حد تک اثر انداز ہوتا ہے لیکن ان عدالتوں کی بنیاد اور اصلیت ایسی ہے کہ ان سے مکمل اراضی کی امید نہیں کی جاسکتی۔ اس لئے کہ اگر ان عدالتوں میں غلط قوانین اور غیر مرضب جج جگہ لیں تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے۔ رشوت خوریاں پارٹی بازیاں، خصوصی تعلقات ایسی بازیگری اور ہزاروں دوسری خواہیں ان عدالتوں پر ایسی اثر انداز ہو جاتی

یہیں کہ کہنا درست ہو گا کہ ان کا لانہ ہونا ان کے وجود سے بہتر تھا کیوں کہ ان کے وجود سے ظالموں کے غلط مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور اگر ان عدالتوں کے قوانین منصفانہ اور ان کے نجح ہو شیار اور یا انفو بھی ہوں تب بھی بہت سے مجرم ایسے ہیں جو اس طرح ماہراز عمل کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے جرم کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑتے۔ اور یا یہ مجرم کچھ اس طرح سے اپنی فائل اور مقدمہ کو مرتب کر دلتے ہیں اور عدالت میں جوڑ توڑ لگاتے ہیں کہ نجح کے درست و بازو باندھ دیتے ہیں اور قوانین کو بے اثر کر دیتے ہیں۔

## دوسری عدالت اور اسکی خصوصیات

دوسری عدالت جو اس عدالت سے زیادہ بہتر اور صحیح ہے ”وجہ اگئے اعمال“ کی عدالت ہے۔

ہمارے اعمال اثر رکھتے ہیں جو کم یا زیادہ مدت میں ہمارے دامن کو پرکھ لیتے ہیں۔

اگر اسے جرم ایک عام اصول کے طور پر بھی نہیں تب بھی کم از کم بہت سے موقعوں پر یہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے۔

ہم نے ایسی حکومتیں دیکھی ہیں جن کی بنیادیں ظلم و جور و تم پر بخیں اور ان سے جو بن پڑا انہوں نے کیا لیکن بالآخر انہوں نے جو جال بُنا تھا اسی میں بخیں گئیں۔ اور ان کے عمل کے رو عمل نے ان کے دامن کو پکڑا یا اور اس طرح گزگیں اور نابود ہو گئیں کہ ان کے آثار بجز اعن و لذتیں کے باقی نہ رہ گئے۔

چونکہ عمل کی جزا و سڑاعلٹ و معلول اور ظاہری پیوندوں سے مربوط ہے اس لئے کم ہی ممکن ہے کوئی شخص جوڑ توڑ کر کے اس کے چینگل سے بچا رہے۔ اس عدالت میں جو نفس فقط پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عدالت نعمتی اور عالمی نہیں ہے اور اسی وجہ سے یہ ہم کو قیامت کی اس عظیم عدالت سے بے نیاز نہیں کرتی ہے۔

### تیسرا عدالت کن خصوصیات کی حامل ہے

تیسرا عدالت جو اس دوسرا عدالت سے بھی زیادہ دقیق اور صحیح ہے۔ یہ "ضمیر" کی عدالت ہے۔

جتوڑ نظام شمسی اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ ایک "ایم" میں سوت گیا ہے اسی طرح کہا جاسکتا ہے کہ ضمیر کی عدالت بھی قیامت کی عدالت کا ایک نمونہ ہے جو خود ہمارے وجود میں پایا جاتا ہے۔

یکونکہ انسان کے وجود میں ایک ایسی پوشیدہ طاقت ہے جسے فلاسفہ "عقل علی" کہتے ہیں اور قرآن مجید اسے "نفسِ توانہ" کہتا ہے اور آج کے دور میں اسے "ضمیر" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

جیسے ہی اچھا یا برا کام افان کے سامنے آتا ہے فوراً "وضمیر" کی یہ عدالت اپنا کام شروع کر دیتی ہے اور بغیر کسی شور و غل کے لیکن انہیں اسی صحیح اور اصولی طور پر اس مقدمہ کی سماعت شروع کرتی ہے۔ اور اپنے حکم کا نتیجہ سزاوں یا براووں کی صورت میں پیش کر دیتی ہے۔

کبھی تو یہ عدالت مجرموں کو اندر سے کوڑے لگاتی ہے اور ان کو اس طرح

ذہنی شکنبوں میں جگہ لیتی ہے کہ وہ موت کا کھلی آغوش کے ساتھ استقبال کرتے ہیں اور اس کو زندگی پر ترجیح دیتے ہیں اور اپنے وصیت نام میں لکھ دیتے ہیں کہ اگر تم نے خود کشی کا اقدام کیا تو یہ صرف صمیر کو بچانی سے منہب ادا نہ کیا۔

اور یہ عدالت انسان کو ایک اچھے کام کے لئے اس طرح شوق دلانی ہے کہ اسے وجود درور سے سرشار کر دیتی ہے۔ اور انسان اپنے اندر کی الگ ہائیوں میں سکون محسوس کرتا ہے ایک ایسا ادغیریں ماقابل تعریف اور لذت سے بھروسہ سکون جسے بیان نہیں کیا جاسکتا۔

## صمیر کی عدالت کے بعض امتیازات

یہ عدالت بعض امتیازات و خصوصیات کی حامل ہے :

- ۱۔ اس عدالت میں بحق، گواہ، حکم جاری کرنے والا اور تنہائی سب ایک ہی ہے۔ وہی صمیر کی طاقت ہے جو گواہی دیتی ہے فیصلہ کرنی ہے اور اس کے بعد آستین اور پڑھنے والی ہے اور اپنا حکم جاری کرنی ہے!
- ۲۔ شور شترابے سے بھر لیو عام عدالتوں کے برخلاف جن میں کبھی کبھی ایک مقدمہ کی کارروائی میں کئی سال لگ جاتے ہیں اس عدالت کا فیصلہ برق رفتاری سے ہوتا ہے۔ اور عام طور پر اس میں وقت درکار نہیں ہوتا ہے البتہ کبھی کبھی جرم کے ثبوت کے ثابت ہونے کے لئے اور صمیر کی آنکھوں کے سامنے سے عقلت کے پردے ہٹانے کے لئے کچھ وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ثبوت فراہم ہوتے ہی اس عدالت کا حکم فوری اور

واضح ہوتا ہے۔

۴۔ اس عدالت کا حکم آخری ہوتا ہے اور اس میں دوسری عدالت اپسیل اور پریمیکورٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔

۵۔ یہ عدالت صرف سزا ہی نہیں دیتی بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو محکوم کرنے والوں کو جزا بھی دیتی ہے۔ اس بناء پر یہ عدالت ایسی ہے جس میں اچھے اور بے لوگوں کا نیچلہ ہوتا ہے اور وہ اپنے اعمال کے تناسب سے جزا اور سزا پاتے ہیں۔

۶۔ اس عدالت کی سڑائیں عام عدالتوں کی سزاویں سے بالکل مشابہ نہیں ہوتیں۔ بظاہر نہ تو اس میں قید کی سزا جوئی ہے بلکہ کوڑے پر تے یہاں زچانسی کا سخت ہوتا ہے اور نہ آگ میں جایا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی اس عدالت کی سزا اس طرح اندر جلا تی ہے اور ایسے قید خانے میں ڈال دیتی ہے کہ دنیا اپنی ستام و سعتوں کے ساتھ تنگ ہو جاتی ہے بلکہ کسی خوفناک وحشتناک قید خانے کی کوئی زیادہ تنگ ہو جاتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ یہ ضمیر کی عدالت اس دنیا کی عدالتوں کی طرح نہیں کیونکہ یہ تو قیامت کی عدالت کی مانند ایک عدالت ہے۔

اس عدالت کی عظمت اس حد تک ہے کہ قرآن اس کے نام کی قسم کھاتا ہے اور اس ضمیر کی عدالت کو قرآن قیامت کی عدالت کے پہلو پہلو رکھتا ہے اور کہتا ہے : لَا أَقِيمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ۝ وَلَا أَقِيمُ بِالنَّفْسِ اللَّقِيمَ ۝ أَيْمَحْسِبُ إِلَّا إِنَّمَا تَنْجِمُعُ عِظَامَهُ ۝ بَلِي خَادِرٌ مِّنْ عَلَى أَنْ تُسْوَى بَشَاهَهُ ۝ ۱۵ میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور (برائی ہم) ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں (کہ تم سب دوبارہ) ضرور زندہ کئے جاؤ گے کیا انسان یہ

خیال کرتا ہے کہ جم اس کی مدد یوں کو (ابو سیدہ ہونے کے بعد) جمع نہ کریں گے،  
ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی پورپور درست کریں۔ (۱۱)




## ضمیر کی عدالت کے بعض نقاصل

البتہ ان تمام خصوصیات کے باوجود یہ ضمیر کی عدالت بھی پونک دنیا دی  
ہے اس لئے بعض نقاصل رکھتی ہے اور جم کو قیامت کی عدالت سے بے نیاز  
نہیں کرتی اس لئے کہ :

- ۱۔ ضمیر کی عدالت ہر چیز کی شاخت نہیں کر پاتی اور یہ ہر انسان کی عقل و  
فکر و تجھیص کے تناسب سے ہوتی ہے۔
- ۲۔ یہاں تک کہ جبکہ ایک ماہر دھوکے باز انسان اپنے ضمیر کو بھی دھوکہ  
دے سکتا ہے اور ایک طرح سے اپنے ضمیر کے خلاف چال چال سکتا ہے۔
- ۳۔ کبھی کبھی بعض گنگاروں کے ضمیر کی آواز اتنی تکڑہ رہتی ہے کہ ان کے  
کانوں تک نہیں پہنچتی۔

اور اس طرح سے ایک پوچھتی عدالت یعنی قیامت کے دن کی عظیم عدالت  
کی ضرورت واضح ہو جاتی ہے۔



## سوچئے اور جواب دیجئے!

- ۱۔ دراصل انسان کا کتنی عدالتوں میں فیصلہ ہوتا ہے؟
  - ۲۔ پہلی عدالت اور اس کی خصوصیات کیا ہیں؟
  - ۳۔ دوسری عدالت کی کیا خصوصیات ہیں؟
  - ۴۔ تیسرا عدالت کن خصوصیات کی حامل ہے؟
  - ۵۔ ضمیر کی عدالت کے امتیازات اور نقاصلص بیان کیجئے۔
- 
- • • • •

چچہ تھا سبق

# قیامت فطرت کی تحلیل گاہیں

باقار سے محبت۔

قدیم قوموں کے درمیان روزخشن کا عقیدہ۔

باطنی حکم کا وجود اور قیامت کا نظری ہونا۔

سوچئے اور جواب دیجئے۔

عام طور پر کہتے ہیں کہ خود شناسی انسان کی فطرت اور سرشنست بیس داخل ہے۔ اور اگر ہم ایک باخبر اور بے خبر انسان کے ضمیر کے بارے میں سوچیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ اس کا ربط ایک ماوراء الطبیعت مدار (اعناز) سے ہے کہ جس نے علم و منصوبہ بندری اور خاص مقصد کے تحت اس دنیا کو خلق کیا ہے۔

لیکن یہ توحید اور خدا کی معرفت کے مسئلہ ہی پر مختص نہیں ہے بلکہ تمام دین کے بنیادی اصول و فروع فطرت میں موجود ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو کا تو "شیعیت" اور خلقت میں صروری ہم آئندگی نہ ہوگی۔ (خور کیجھے ہے)۔

ہم اگر اپنے دل کو ٹھولیں اور اپنی روح و جان کی گہرا یوں میں غور کریں تو یہ آواز ہمارے ضمیر کے کافوں میں سنائی دے گی کہ زندگی کا خاتمه موت پر نہیں ہوتا بلکہ موت عالم بقا میں جانے کا ایک دروازہ ہے!

اس حقیقت تک پہنچنے کے لئے ہمیں مندرجہ ذیل بالاتوں پر غور کرنا چاہئے:

## ا۔ بقا سے چجٹت

اگر واقعہ افان فنا اور زیابودی کے لئے پیدا کیا گیا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ فنا کا عاشق ہوا اور اپنی عمر کے خاتمے کے وقت موت سے لذت محسوں کرے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ موت (بمعنی نابودی) کا قیافہ انسان کے لئے کسی دور میں

بھی از صرف خوش آبیند نہیں ہے بلکہ وہ اپنے تمام وجود کے ساتھ موت سے کترتا ہے۔

طویل عمر کے صحیحے بھاگنا، جوانی باقی رکھنے کی اکسیر دواؤں کا معلوم کرنا، آبِ حیات کی تلاش، یہ سب باقی اسی حقیقت کا پتہ ہے دیتی ہیں۔ یہ بقا سے عشق و محبت اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ ہم بقار کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اور اگر ہم فنا کے لئے پیدا کئے گئے ہوتے تو بقا سے یہ عشق و محبت کوئی معنی نہیں رکھتی۔

تام بیانِ محبت یہ ہے جو ہم میں ہیں وہ ہمارے وجود کی تکمیل کرتی ہیں۔ بقا کے لئے محبت بھی ہمارے وجود کی تکمیل کرنے والی ہے۔

یہ مت بھولئے کہ ہم قیامت کے موضوع پر خداوند حکیم و دانا کے وجود کو مانتے کے بعد سمجھت کر رہے ہیں۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ اس نے جو بھی ہماری ذات میں پیدا کیا ہے وہ ایک مخصوص وجود سے ہے اور اسی لئے انسان کی بفت سے محبت والفت کی بھی ایک خاص وجہ ہونا چاہئے اور یہ سبب اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا کے وجود کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔

## ۲۔ قدیم قوموں کے درمیان روزِ حشر کا عقیدہ

جس طریقے سے انسانی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ پرانی قوموں کے درمیان بہت پرانے زمانے سے ہی کلی طور پر مذہب کا وجود تھا اسی طرح سے یہ بات بھی واضح رہے کہ قدیم ترین ایام سے انسان کا موت کے بعد کی زندگی پر عقیدہ تھا۔

پرانے زمانے کے انسانوں یہاں تک کرتا رہنے سے قبل کے دور کے انسانوں کے جو آثار باقی رہ گئے یہ میں خاص طور پر مردوں کے لئے قبروں کی بناوٹ اور مردوں کے دفن کرنے کا ڈھنگ یہ بھی اس حقیقت کے گواہ یہیں کرو دو گوئے لوگ موت کے بعد کی زندگی پر ایسا ان رکھتے تھے۔

اس عقیدہ کو جس کی جڑیں ہمیشہ انسانی وجود میں رہیں، معمولی نہیں سمجھا جاسکتا اور نہیں اس عقیدہ کو ان لوگوں کی محضن ایک عادت یا مسلسل یاد دہائیوں کا نتیجہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

ہم جب بھی کوئی عقیدہ ایسا پاتے ہیں جس کی جڑیں دور تک اور تاریخ کے طوالی دور میں انسانی معاشروں میں ہوں تو ہمیں چاہئے کہ اسے اس عقیدہ کو فطری ہونے کی نشانی سمجھیں کیونکہ صرف فطرت اور سرشت ہی گذرتے ہوئے زمانے اور معاشرتی اور فکری ماحول کا مقابلہ کر سکتی ہے اور اپنی جگہ پر باقی رہ سکتی ہے۔ ورزش عادات و رسومات اور فحیثیں زمانے کے ساتھ ساتھ تھم ہو جاتی ہیں۔

مثلاً ایک خاص قسم کا پاس پہنچانا تو عادت ہے یا آداب و رسومات کا جزو ہے اس لئے ماحول کے بد لئے یا وقت کے گذرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے۔

لیکن اولاد کے لئے ماں کی محبت ایک فطری و طبیعی اور باطنی چیز ہے لہذا نہ تو ماحول کی تبدیلیاں اس محبت کے شعلے کو مند کرتی ہیں اور نہ ہی گذرتے ہوئے زمانے کے گرد و غبار نیاں پڑتی ہے۔ اور یہ باطنی کشش جو ہر صورت میں باقی رہتی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ محبت انسان کی فطرت اور طبیعت میں داخل ہے۔

جب دانشور یہ کہتے ہیں : صحیح تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی زمانے کے انسانی قبیلے ایک قسم کے مذہب کو مانتے تھے۔ کیونکہ وہ اپنے مردوں کو ایک مخصوص طریق سے دفن کرتے تھے اور ان کے کام کرنے کے اوزاروں کو ان کے پہلو میں رکھ دیتے تھے۔ اور اس طریق سے وہ دوسری دنیا کے وجود پر اپنے عقیدہ کے بارے میں ثبوت بہم پہنچاتے تھے۔ (۱)

ہم بخوبی اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ یہ قویں موت کے بعد کی زندگی کو مانتی تھیں خواہ اس عقیدہ کی راہ میں ان کی رفتار غلط ہی کیوں نہ ہی ہو۔ اور یہ قویں یہ نصیحت کرتی تھیں کہ وہ زندگی بھی بالکل اسی دنیاوی زندگی کیطریح ہے اور اس کیلئے بھی بھی اوزار اور آلات ضروری ہیں۔

## ۲۔ باطنی محکمہ یا ضمیر کا وجود قیامت کے فطحی ہونے کی دوسری دلیل ہے۔

جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کرچکے ہیں سب بخوبی اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہماری باطنی عدالت ہمارے اعمال کی نگرانی کرتی ہے۔ یہ عدالت نیکیوں کے لئے اس طرح جزا دیتی ہے کہ ہم باطنی طور پر ایک سکون کا احساس کرتے ہیں اور ہماری روح ایک ایسی صست اور خوشی سے سرشار ہو جاتی ہے کہ جس کو نہ تو بیان کیا جاسکتا ہے اور دستلم ہی اس کا تعریف کر سکتا ہے۔

اوہ بتا طبی عدالت برسے کاموں کے لئے خاص طور پر گناہ ان کبیرہ کے لئے اس طرح سزا دیتی ہے کہ انسان کی زندگی تلغی ہو کر رہ جاتی ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں نے ایک بڑے ظلم مثلاً قتل کا ارتکاب کیا اور عدالت کے چنگل سے بچنے کے لئے فرار کرنے کے بعد رضا کار اراد طور پر آئے اور خود کو عدالت کے پرداز کے چھاشی کے تحفے کے لئے پیش کر دیا۔ اور اس اقدام کی وجہ انھوں نے اپنے ضمیر کے شکنخے سے ربانی حاصل کرنا تائی۔ انسان اسی باطنی عدالت کا مشاہدہ کر کے خود سے سوال کرتا ہے کہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ میں تو ایک جیسوی طسی مخلوق ہوتے ہوئے بھی ایک ایسی عدالت کا حامل ہوں لیکن ایک بڑی دنیا اور جہان آفرینش کے لئے اس کے تناسب سے کوئی عدالت نہ ہو !

اور اس طرح سے انسان یہیں طریقوں سے قیامت اور موت کے بعد کی زندگی پر اعتقاد کے فطری ہونے کی توثیق کر سکتا ہے :

- بقا سے محبت کے ذریعہ
- طویل انسانی تاریخ میں اس روز ختن کے عقیدہ کے وجود کے ذریعہ
- اور انسان یہیں موجود ضمیر کی عدالت کی ایک جیسوی سی مثال کے ذریعہ

## سوچئے اور جواب دیجئے!

- ۱۔ فطری اور غیر فطری امور میں فرق کیونکر معلوم کیا جاسکتا ہے؟
  - ۲۔ انسان کی بقاء سے محبت کی کیا وجہ ہے اور اس کی بقاء سے یہ محبت قیامت کے فطری ہونے کی دلیل کیونکر میں ہے؟
  - ۳۔ کیا اپنے کی تو میں کبھی قیامت پر ایمان رکھتی تھیں؟ ثبوت پیش کیجئے۔
  - ۴۔ مضبوط صنیل کیونکر ہماری تشویق یا ملامت کرتا ہے؟ مثالوں سے اس کی تشریح کیجئے۔
  - ۵۔ صنیل کی عدالت اور قیامت کی عظیم عدالت میں آپس میں کیا ارابط ہے؟
-

**Subhan Allah**



پانچواں سبق

# قیامت اور النصاف کا ترازو

تمام آسمان و زمین انصاف کی بنیادوں پر  
قاسم ہیں -

اختیار اور ارادہ کی آزادی۔

سوچئے اور جواب دیجئے۔

## تمام آسمان و زمین انصاف کی بنیادوں پر قائم ہیں

معمولی سے غور و فکر کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے نظام اور آفرینش کے قوانین میں سب جگہ ایک خاص قانون کا دور دور ہے اور ہر چیز اپنی جگہ مناسب طور پر قائم ہے۔ انسان کے بدن میں بھی یہ عادلانہ نظام اس قدر و پچس طبقی سے قائم ہے کہ اس میں ایک معمولی سی ناموزوں تبدیلی ہی انسان کی بیماری یا موت کا سبب بن جاتی ہے۔

شاہ کے طور پر آنکھ دل اور دماغ کی طرز ساخت میں ہر چیز ٹھیک اپنی جگہ رہا اور ضروری حد تک ہے۔ یہ انصاف و نظم مخصوص انسانی جسم کی طرز ساخت میں ہی نہیں بلکہ تمام کائنات میں موجود ہے جس کی بناء پر کہا گیا ہے : بالعدل قامت السموات والاسٹن (تمام آسمان و زمین انصاف کی بنیادوں پر قائم ہیں)۔

اس کائنات کا ایک "ایٹم" (ذرہ) اس قدر چھوٹا ہے کہ ان کی کروڑوں کی تعداد ایک سوئی کی نوک پر آجائی ہے۔ ذرا غور کیجئے کروڑوں سال تک ہے وائے ان کے وجود کے لئے ان کی طرز ساخت کس قدر صحیح اور منظم ہوئی چاہئے! یہ اسی عدالت اور انتہائی صحیح نظام کی بست اور الکیٹروں (ELECTRONS) اور پروٹروں (PROTRONS) کا (ایٹم میں) بالکل صحیح نظام ہے۔ اور کوئی بھی چھوٹی ہر چیز ایسے بے نظیر نظام کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔

کیا واقعًا ان کی خلقت استثنائی تخلیق ہو سکتی ہے؟ کیا وہ اس عظیم کائنات میں ایک بے جوڑ پیوند ہے کہ وہ آزاد ہے اور جو چاہے "بدھی" ظلم اور ناصحانی کرتا پھرے؟ یا اس مقام پر کوئی پوشیدہ حقیقت ہے؟

## اختیار اور ارادہ کی آزادی

حقیقت یہ ہے کہ انسان تمام موجودات عالم پر ایک بنیادی فویت رکھتا ہے اور وہ اس کے "ارادے اور اختیار کی آزادی" ہے۔ خدا نے اس کو آزاد کیوں پیدا کیا ہے؟ اور کیوں اس کو قوت فیصلہ عطا کی ہے کہ وہ جو کام چاہے انجام دے؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کو آزاد پیدا شکیا گیا ہوتا تو وہ ترقی کی منزیں طے نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس کا یہی عظیم امتیاز اس کی روحانی اور اخلاقی تکمیل کا ضامن ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کوتلوار کی لوب پر زبردستی ہجڑوں کی مرد کرنے پر اور معاشرہ کے مفید کاموں کے لئے مجبور کیا جاتے تو یہ اچھے کام انجام تو پاییں گے لیکن ان کاموں سے اس شخص کا، جس نے یہ کام انجام دئے کوئی بھی اخلاقی اور روحانی ارتقا نہیں ہو گا۔ برخلاف اس کے اگر کوئی شخص خود اپنی خواہش اور ارادے سے ان کاموں کا ایک فیصد حصہ بھی انجام دے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اسی مناسبت سے اس نے اپنے روحانی اور اخلاقی کردار کی تکمیل کی راہ میں قدم ٹرھایا ہے۔

اس بناء پر انسان کی روحانی اور اخلاقی تکمیل کے لئے پہلی شرط اس کے ارادے اور اختیار کی آزادی ہے تاکہ وہ خود اپنے پیروں سے اس راستہ پر

گام زدن ہونے کسی مجبوری کے بنا پر۔ اور اگر خداوند عالم نے انسان کو عظیم نعمت  
بخشتی ہے تو یہ صرف اسی ارتقاء معنوی و اخلاقی اعلیٰ مقصد حاصل کرنے کیلئے  
ہے۔

لیکن یہ عظیم نعمت بچپنوں کی نعمت کی مانند ہے کہ اس کے نزدیک  
کافی طبعی آگئے ہیں اور یہ انسانوں کی ارادہ اور اختیار کی آزادی سے غلط فائدہ  
اٹھانے ہے۔ اور اس کا ظلم و فساد و گناہ سے آسودہ ہونا ہے۔  
البتہ خدا کے لئے یہ امر بالکل مشکل نہ تھا کہ جیسے ہی انسان ظلم و ستم کے  
نزدیک اپنے ہاتھ لانا فوراً خدا اس کو ایک ایسی آفت میں مبتلا کر دیتا کہ پھر ایسے  
کام کا خیال ہی اس کے دماغ میں نہ آتا۔ اس کا ہاتھ مثل ہو جاتا، اسکی آنکھ کی  
روشنی جاتی رہتی اور یہ اسکی زبان گنگ ہو جاتی۔

یہ صحیح ہے کہ اس حالت میں کوئی شخص بھی اس آزادی سے غلط فائدہ نہ  
اٹھاتا اور گناہ کی تلاش میں نہ جاتا لیکن اس کا یہ تقویٰ اور پرہیزگاری درحقیقت  
محسن محسوس ہوتی اور کسی جیشیت سے بھی انسان کے لئے قابل افتخارات ہوتی بلکہ  
در اصل یہ پرہیزگاری صرف فوری طور پر بغیر کسی وقفہ کے شدید سزاوں کے دئے  
جانے کے ذریعے ہوتی۔

لہذا انسان کو چاہئے کہ ہر حال میں مختار اور آزاد ہو۔ اور اللہ کے طرح  
طرح کے اختیارات کے لئے تیار رہے۔ اور علاوہ بعض استثنائی مواقع  
کے ساتھ فوری سزاوں سے محفوظ رہے تاکہ اپنے بیش قیمت وجود کا ثبوت  
دے سکے۔

لیکن اس مقام پر ایک بات رہ جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر حالات  
بیہیاریں اور ہر شخص ایک راہ اختیار کرے تو پروردگار عالم کی عدالت کا

قالوں، جو تمام کائنات پر نافذ ہے، ناقص رہ جائے گا۔

اسی موقع کے لئے ہم یقین کرتے ہیں کہ انسان کے لئے ایک عدالت متعین کی گئی ہے جس میں سب ہی بغیر کسی استثناء کے حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال کی جزا و سزا پایتیں گے۔ اور اس کائنات کی عام عدالت سے وہ اپنے انصاف کا حصہ حاصل کریں گے۔

کیا یہ ممکن ہے کہ مفردوں، فرعونوں، چنیگزوں اور قاروں کا ظلم و ستم ایک زمان تک جاری رہے اور ان کے اعمال کا کوئی حساب و کتاب نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ مجرمین اور پرہیزگار افراد پر ورد گار عالم کی میزان عدالت میں یہ کام ہوں؟

اور جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے: **أَفَجَعَلُ الْمُسَاءِيْنَ كَالْمُجَاهِيْنَ**<sup>۱</sup> مَا لَكُمْ كِيفَ تَحْكُمُوْنَ

<sup>۲</sup> (تو کیا ہم فرمانبرداروں کو نافرمان کے برابر کر دیں گے؟) اگر نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو کیا حکم لگاتے ہو؟

(سورہ قلم، آیات ۳۵ و ۳۶)

اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے: **أَمْ بَجَعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفَاجِيْرِ**<sup>۳</sup> کیا ہم پرہیزگاروں کو مثل بدکاروں کے بنادیں؟

(سورہ ص، آیت ۲۸)

یہ صحیح ہے کہ بدکاروں کے ایک گروہ کو اسی دنیا ہی میں اپنے اعمال کا بدل مل جاتا ہے یا اس کا کچھ حصہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے۔

اور یہ صحیح ہے کہ ضمیر کی عدالت بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ اور یہ بھی درست ہے کہ گناہ و ظلم و ستم کے رو عمل اور نما الصافیوں کے خراب نتیجے کسی بھی انسان کے دامن کو خود ہی پکڑ لیتے ہیں۔

لیکن ہم اگر صحیح طریقے سے غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں باتوں میں سے کوئی بھی مکمل اور عمومی نہیں ہے جو ہر ظالم اور گھنہگار کو ٹھیک ٹھیک اس کے ظلم و گناہ کی مناسبت سے سزا دے سکے۔ اور لکھتے ہی اشخاص ایسے ہیں جو اعمال کی سزا کے چیل کے خمیر کی سزاوں سے اور اپنے خراب اعمال کی تصویروں سے فرار کر جاتے ہیں یا صحیح حد تک سزا نہیں پاتے۔

بس صدوری ہے کہ ایسے افراد کے لئے اور سب کے لئے ایک ایسا مکمل اور عدالت ہو جس میں سوئی کی نوک کے برابر بھی اچھے یا بے کام کا مخابر ہو سکے درجی صحیح متعین انصاف کی حفاظت نہ ہو سکے گی۔

اس بناء پر ”پروردگارِ عالم“ کے وجود اور ”اس کی عدالت“ کو اور ”قیامت کے وجود“ کو ماتایکاں ہے۔ اور یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔



## سوچنے اور جواب دیجئے!

- ۱۔ تمام آسمانوں اور زمین میں کس طرح عدل قائم ہے؟
- ۲۔ انسان کو ”ارادہ اور اختیار کی آزادی“ کی نعمت کیوں دی گئی ہے؟
- ۳۔ اگر اس دنیا میں بدکردار افراد کو اپنے اعمال کی فوری اور شدید سزا مل جائیکرتی تو کیا ہوتا؟
- ۴۔ اعمال کی سزا میں صافیر کی عدالت اور خراب اعمال کی تصویریں کیوں ہیں قیامت کی عدالت سے بے نیاز نہیں کرتیں؟
- ۵۔ عدالت پر ووگاڑ اور قیامت میں کیا رابطہ ہے؟

ب۔ حکمہ وحدت

لایحه انتخاباتی این کتاب از انتخابات رئیس‌جمهور ایران



دایمی دایمی دایم

خانه ایام نیمی دکرات

چھٹا سلسلہ

# بار بار ہم نے قیامتِ دنیا میں دھپی حصے

● مشرکین مسلمان قیامت پر کیوں تعجب کرتے ہیں ؟

● قرآن اور موت کے بعد زیدہ ہونا۔

● خوار و فکر کے بعد جواب دیجئے۔

## مشرکین قیامت کے مسئلہ پر تعجب کیوں کرتے ہیں؟

قرآن کی آیتوں سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ بت پرست افراد اور اسی طرح متام کفار نہ صرف پیغمبر کے زمانے میں بلکہ دوسرے زمانوں میں بھی قیامت اور ربوت کے بعد زندہ ہونے کے مسئلہ پر تعجب کیا کرتے تھے اور اس سے وحشت زدہ رہا کرتے تھے یہاں تک کہ اس مسئلہ پر غسلگو کو پاگل پن سے تعبیر کرتے تھے اور ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے : وَ قَالَ اللَّهُمَّ مِنْ أَكْفَارِ دَاهْلَ مَنَدَّ لَكَهُ عَلَى إِرْجَلٍ مِنْتَكُمْ كُمْ إِذَا مِنْ قَمْ  
مُكْلِمْ مُهْرَزْفَ إِذَا كُمْ لَكَعْنَ خَلْقَ حَبْدَيْدَ ۱۵۰ أَقْتَرْمِي عَلَى اللَّهِ كَذَبَا  
أَمْ بِهِ حَتَّهُ ۹۰ (اور کفار) (مسخرے پن سے باہم) کہتے تھے کیا ہم تینیں ایسا آدمی (محمد) ابتداءں جو تم سے بیان کرے گا کہ جب تم (مرکز شرقی جاگے اور) بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم یقیناً ایک نئے وجود میں آؤ گے کیا اس شخص (محمد) نے خدا پر چھپوٹ باندھا ہے یا اسے جیوں ہو گیا ہے۔ (سورہ سبا۔ آیت ۹۰)

اُنہیں اس زمانے میں ناس سمجھی اور کوتاه لنظری کی بنا پر ربوت کے بعد کی دنیا (آخرت) اور مردلوں کے زندہ ہونے پر عقیدہ ایک طرح کا پاگل پن یا خدا پر بہتان تراشی سمجھی جاتی تھی۔ اور یہی جان مادہ سے دوبارہ زندگی کے وجود میں آنے کے عقیدے کو جنون آمینہ خیال کیا جاتا ہے۔

لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن نے ایسے غلط خیالات کے خلاف بہت سے استدلال پیش کئے ہیں جن سے عام ان ان اور بڑے بڑے مفکرین سب ہی اپنی ایسی صلاحیت کے مطابق مستفید ہو سکتے ہیں۔

اگرچہ اس مسئلہ پر قرآن کی سمجھی دلیلیوں کی تشریح کے لئے ایک مستقل کتاب کی تالیف کی ضرورت ہے مگر یہ ان پر اس کے صرف بعض گوشوں پر بھی التفاہی جاتی ہے:

## قرآن اور موت کے بعد زندہ ہونا

(۱) سمجھی قرآن ان غلط خیالات رکھنے والوں سے کہتا ہے: "تم پر ابر اپنی آنکھوں سے روزمرہ کی زندگی میں ہی حشر کے میدا لوں کو دیکھتے ہو کر اُس طرح موجوداتِ عالم فنا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بارہ زندہ ہو جاتے ہیں پھر سمجھی تم قیامت کے مسئلہ میں شک کرتے ہو اور اس کی تردید کرتے ہو؟!"

وَإِذْهَا اللَّذَّى أَمْسَلَ اللَّهُ يَعْلَمُ فَتَشَبَّهُ مَخَابِقَهُ إِلَى بَلْدَيْ مَيْتٍ

فَأَحَيَّنَا بِهِ الْأَرْضَ صَنْ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النَّشُورُ ۝ ۵۰ اور خدا ہی (وہ قادر و تو انہا ہے) جو ہوا لوں کو بسیجتا ہے تو ہوا یہیں باہلوں کو اڑائے اڑائے پھرنا ہیں۔ پھر ہم اس بادل کو مردہ (افتادہ) شہر کی طرز میں نکادیتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعہ سے نہیں کو اس کے مرجانے کے بعد شاداب کر دیتے ہیں۔ یوں جیسا مردوں کو قیامت ہے (۱) جیسا انھنماں ہو گا۔

(سورہ نازلہ۔ آیت ۴)

موسم سرما (برف یاری کے موسم میں) اگر ہم چھرہ فطرت پر نظر والے ہیں تو ہر جگہوت طاری ہوتی ہے۔ تمام درخت مکمل طور پر پتیوں پھولوں اور رکھلوں سے خالی ہوتے ہیں۔ اور دنختوں کی خشک شاخیں بخیسی حصہ ورکت کے اپنی مگر پیر باقی رہتی ہیں۔ نہ پھول مکراتے ہیں اور نہ کلیاں چنکتی ہیں اور نہ ہی کوہ دیباں میں کوئی جبڑی حیات نظر آتی ہے۔

لیکن یہاں کی فصل آتے ہی ہوانہم ونازک ولطیف ہو جاتی ہے۔ پاٹش کی حیات جبٹیں چھیننے پڑتے ہی ایکبارگی ساری فطرت میں ایک جنیش ظاہر ہوتی ہے مختلف قسم کی گھاسیں آتی ہیں۔ دنختوں میں کوئی پلیں بھوٹی ہیں۔ کلیاں اور پھول نظر آنے لگتے ہیں پرندے دنختوں پر ڈیرہ جاتے ہیں۔ اور تمام فطرت میں ایک شوگر شر پیا ہو جاتا ہے۔

اگر موت کے بعد زندگی کا تصور نہ ہوتا تو جم اپنی آنکھوں کے سامنے ہر سال یہ منظر دیکھا کرتے۔ اگر موت کے بعد حیات ایک امرِ حال اور ایک جون آمیزیات ہوتی تو یہ قابل درک منظر ہماری آنکھوں کے سامنے بار بار نہ آتا۔ مردہ زمین کے زندہ ہونے اور عاگلائٹھنے میں یا انسان کے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں فرق ہی کیا ہے؟

★ ★ ★

(۱۷) کبھی قرآن ان غلط خیالات رکھنے والوں کے ہاتھ پکڑتا ہے، ان کو تخلیق و آفرینش کے ابتدائی دور میں رجاتا ہے، آفرینش کے ابتدائی دور کی یاد دلتا ہے اور اس صحرائی عرب سے جو ابو سیدہ مددیوں کو ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پیغمبر اسلام کی خدمت میں لاتا ہے اور کہتا ہے: مراے محمد! کون ہے جو ان

یوسفیدہ بُلیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہو؟ ہم کو بتاؤ کون ہے جو اس کام کو انجام دے سکتا ہے؟ اور وہ عرب یہ خال کرتا ہے کہ میں تو قیامت کے مسئلہ کے خلاف ایک دندران شکن دلیل اپنی مٹھی میں لیکر آیا ہوں۔

قرآن پیغمبر کو حکم دیتا ہے: قُلْ يَعْصِيَهَا اللَّهُ أَتَشَاهَدُ أَنَّا أَوْلَىٰ بِهَا<sup>۱</sup>: ”اے رسول! تم کہد و کہاں کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو (جب یہ کچھ شدختے) پہلی مرتبہ خلق کیا تھا۔

(سورہ آیت ۲۹)

پہلی بار پیدا کرنے اور دوبارہ زندہ کرنے میں فرق ہی کیا ہے؟

اور اسی لئے قرآن مجید دوسری آیتوں میں ایک بہت ہی مختصر اور پرمغزی جملہ ارشاد فرمایا ہے: كَمَابْدَأْنَا أَوْلَىٰ خَلْقَ نَعْدِدُ لَا<sup>۲</sup>: ”جس طرح ہم نے مختلفات کو پہلی بار پیدا کیا تھا (اسی طرح) دوبارہ (پیدا) کر جھوڑیں گے۔“

(سورہ نبیاء - آیت ۱۰۳)

کبھی قرآن ان غلط خیالات رکھنے والوں کو فدرا کی زمین اور آسمان کو خلن کرنے کی عظیم قدرت کی یاد دلائے کرتا ہے: أَوْلَىٰ نَعْدِدُ لَا خَلْقَ النَّمَاءِ وَالْأَرْضِ يَقْدِيرُ عَلَىٰ أَيْخَلْقَ مِثْلَهُمْ<sup>۳</sup> بِلِّي وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ<sup>۴</sup> إِنَّمَا أَنْفَرَكَ رَأْدًا آتَى رَأْدَ شَيْئًا أَيْقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ<sup>۵</sup>: ”(بھلا) جس رخدا (نے سارے آسمان اور زمین پیدا کے) کیا وہ اس پر قابو نہیں رکھتا کہ ان کے مثل (دوبارہ) پیدا کر دے۔ یا (اپنے مزدور قابو رکھتا ہے) اور وہ تو پیدا کرنے والا واقف کارہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کو (پیدا کرنا) چاہتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ”ہو جاؤ“ (تو فوراً) ہو جاتی ہے۔“

(سورہ نبیاء - آیت ۸۹ اور ۱۰۳)

وہ لوگ مخصوص نے ان قیامت کے مسائل کی تردید کی وہ ایسے افراحتے جنکی کوتاه نظر اپنی حچوٹی سی چھپا رہ دیواری سے بھی باہر نہیں گئی۔ ورنہ وہ ۵ یا سمجھ لئت کہ دوبارہ زندہ کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے اور مردود کو دوبارہ زندہ کرنا اس خدا کی قدرت کے آگے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے۔

(۲) تبھی قرآن غلط خیالات رکھنے والوں کی نظر وہ کامنے قتوں ( ) کے حشر کا منظر پیش کرتے ہوئے کہتا ہے : الَّذِي جَعَلَ لَنَّمِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ ۝ جس نے تمہارے واسطے ہرے درخت سے آگ پیدا کروتی (وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انسانوں کو موت کے بعد زندہ کر دے) پھر تم اس سے (اور) آگ مل گائیتے ہو۔“ (سورہ لیکن۔ آیت ۱۸)

جس وقت ہم قرآن کی اس عجیب تغیر پر غور کرتے ہیں اور آج کے جدید علوم کا سرہار لیتے ہیں تو یہ علم ہمیں یہ بتاتا ہے : جس وقت ہم کسی درخت کی لکڑی کو جلاتے ہیں اور اس سے جو آگ ہم کو حاصل ہوتی ہے، پھر اس اور گرمی سورج کی دہی قوت (ENERGY) دھرات اور روشنی ہے جو سالہاں کے عرصہ دراز سے اس درخت میں جمع ہو رہی تھی۔ ہم خیال کرتے تھے کہ اس سوکھے درخت کی لکڑی میں وہ روشنی اور گرمی مدد اور نابود ہو چکی ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جلانے پر اس میں جان آجائی ہے اور وہ لکڑی ایک حیاتِ تازہ کا باس زیب تر کرتی ہے۔

کیا اس خدا کے لئے یو یہ قدرت رکھتا ہے کہ درخت کے جسم میں سورج کی روشنی اور حرارت کو دسیوں سال تو اکٹھا کرے اور ایک ہی الحمیں ساری کی ساری

حرارت کو اس سے فارغ کر دے، مردود کو دوبارہ زندہ کرنا ایک شکل کام  
ہے؟ (۱۱)

بہر حال ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کیسے مدلل اور واضح بیان سے ان لوگوں  
کو جو قیامت کے مسئلہ میں شکر تے ہیں یا اس کی تردید کرتے ہیں یہاں تک کہ  
ان میں بعض تو اس مسئلہ پر فتنگوں کو بالیں سمجھتے ہیں، منہ تو طریقہ دینا ہے اور  
مسئلہ قیامت کو واضح طور پر ثابت کرتا ہے۔ ہم نے تو یہاں اس بیان کے بعض  
گوشنوں کا ہدیہ ذکر کیا ہے۔

(۱۱) تو ہم فرمائیے کہ کامن کے اعتبار سے محض ہر سے درخت ہی سورج کی روشنی سے کاربون گیس (CARBON GAS) حاصل کر کے اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں اور کاربن (CARBON) کو تو خود اپنے لئے رکھ لیتے ہیں اور آکسیجن (OXYGEN) کو علیحدہ اور آزاد کر دیتے ہیں۔ اور سورج کی طاقت اور ENERGY کو بھی کاربن کے ساتھ اپنے لئے جمع کر لیتے ہیں۔

## سوچتے اور جواب دیجئے!

- ۱۔ مشکین قیامت کے مسئلہ پر تعجب کیوں کرتے تھے؟
- ۲۔ کیونکہ ہمیں سال بھر مختلف قسم کی سبزیوں کی دنیا میں ایک حشر کا میدان  
ٹھلاٹا ہے؟
- ۳۔ قرآن مجید نے اپنی بعض آیتوں میں شکم مادر میں بچ کی زندگی کو قیامت کے  
لئے ثبوت کے طور پر کیوں پیش کیا ہے؟
- ۴۔ قوتوں کے عرش سے کیا سزاد ہے؟
- ۵۔ قیامت کے مسئلہ کو ثابت کرنے کے لئے قرآن مجید نے ہرے درخت  
”الشجاع الأخضر“ کا سہارا کیوں لیا ہے؟



ساتواں سین

# قیامت اوسر تخلیق کا فلسفہ

خدا نے ہمیں کیوں خلق کیا ؟

آیا یہ دنیا وہی زندگی ہماری خلقت کا مقصد بن سکتی ہے ؟

سوچتے اور جواب دیجئے۔

## خدا نے ہمیں کیوں خلق کیا ہے؟

اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں کیوں خلق کیا ہے؟ اور کبھی وہ اس سے سمجھی آگے بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دراصل اس عظیم دنیا کی تخلیق کا فالف کیا ہے؟

باعثان ایک درخت کو بچل حاصل کرنے کے لئے رکتا ہے اور وہ زمین کو خسم ریزی کے لئے تیار کرتا ہے اور اس میں بیچ بوتا ہے تخلیق کے باعثان نے تم کو کیوں خلق کیا ہے؟

کیا خدا کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہماری تخلیق سے پورا کرتا ہے؟ اس صورت میں اس (بے نیاز) کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ حاجتمند ہو۔ لیکن نیازمند ہونا خدا کے مقامِ خلاقيت اور اس کے لامتناہی دبوکے شایانِ شان نہیں ہے۔

اس سوال کے جواب میں بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے لیکن چند جملوں میں واضح جواب کا خلاصہ ہے کہ:

سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ تم خدا کے صفات کا اپنی خصوصیات سے موازنہ کرتے ہیں۔ ہم چونکہ ایک محدود مخلوق ہیں اس لئے ہر کام کی کمی کو پورا کرنے کے لئے کرتے ہیں۔

ہم عالم حاصل کرتے ہیں تاکہ ہمارے علم کی کمی دور ہو جائے۔

ہم کب معاشرے میں تاکہ ہماری مالی بھی دور ہو جائے۔

ہم حفظانِ صحت اور دواد پر ہمیز اس لئے کرتے ہیں تاکہ ہماری تند رستی  
محفوظ ہو جائے۔

خدا جو ہر اعتبار سے لامحود ہے۔ بے نیاز ہے۔ اگر وہ کوئی کامِ انجام  
دے۔ تو اس کے کام کا مقصد اس کی ذات سے الگ تلاش کریں۔ وہ اس لئے  
تحلیق نہیں کرتا کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھاتے بلکہ اس کا مقصد تو تحلیق سے یہ ہے  
کہ وہ اپنے بندوں پر اپنا کرم اور اپنی رحمت نازل کرے۔

وہ ایک بے انتہا چمکتے ہوئے آفتاب کی ماند ہے جس کی اپنی کوئی خات  
ن ہو۔ بلکہ وہ تو اس لئے نورافتالی کرتا ہے تاکہ سب اس کے وجود کے نوزے  
بہرمند ہو جائیں۔ یہ اس کی لامحود اور پربرکت ذات کے لئے ضروری اور  
مناسب ہے کہ وہ اپنی منوفات کا باعث پکڑ کر اسے تکمیل کی راہ پر آگے بڑھانا  
ہے۔

عدم سے ہمارا عرض وجود میں آتا اور ہماری تحلیق ہونا ہی بذاتِ خود  
تکمیل کی راہ میں ایک اہم قدم تھا۔ اور پھر خدا کی طرف سے پیغمبروں کا بھیجنا،  
آسمانی کتابوں کا نازل کرنا اور قوانین اور منصوبوں کا معین کرنا یہ سب ہماری تکمیل  
کی منزل تک پہنچنے کے لئے مختلف رہنے ہے۔

یہ دنیا ایک عظیم یونیورسٹی ہے اور ہم اس یونیورسٹی کے طالب علم ہیں۔ (۱)

یہ دنیا کاشت کے لئے تیار ایک جگہ ہے اور ہم اسکے کاشتکار ہیں۔ (۲)

اور یہ دنیا منافع سے بھر لیا ایک تجارت کا بازار ہے اور ہم اس بازار کے تاجر ہیں۔ (۳)

(۱) (۲) (۳) : نبیح البلاغی میں علیؑ کے مختصر جملوں اور شہور حدیث الدین امسیح علیہ السلام  
مفتیوم و مصنفوں۔

یہ کیونکر ممکن ہے کہ ہم انسان کی تخلیق کے لئے کسی مقصد کے قابل نہ ہوں؟ درا نحایت کہ جب ہم اپنے اور گرد نظر دلتے ہیں اور مخلوقات خدا کے ذرہ ذرہ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ ان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ ہمارے بدن کے عجیب و غریب کارخانے کا ہر حصہ بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہماری آنکھوں کی پلکیں اور ہمارے پیروں کے تلووں کی اندر دبی ہوئی سطح (ARCH) بھی بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے۔ یہ کیونکر ممکن ہے کہ ہمارے جسم کی عمارت کے ہر حصہ کا تو ایک مقصد ہو ہو لیکن ہمارے سارے جسم کے جمود کا کوئی مقصد نہ ہو؟

اپنے وجود سے باہر آ کر اگر اس عظیم دنیا کی طرف نکاہ ڈالیں تو ہم ہر چیز کو ایک مختلف مقصد کا حامل پاتے ہیں، آفتاب کی حرارت کا ایک مقصد، بارش کا ایک مقصد ہے، مختلف گلیسوں سے مرکب اس ہوا کا ایک مقصد ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا کی ان تمام چیزوں کا جمود بلا مقصد ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے اس دینے کا شہادت میں اس کی تخلیق کے اصل مقصد کو بتاتے کے لئے ایک ایسا بڑا سائن بورڈ لگا ہو جسکی وضاحت کی وجہ سے پہلی نظر میں کبھی کبھی ہم اس کو پڑھ نہیں پاتے، اور اس پر لکھا ہوا ہے: ”” تربیت اور تبدیر یعنی تکمیل ””۔

★ ★ ★

## آیا یہ دنیاوی زندگی ہماری خلقت کا مقصد بن سکتی ہے؟

اب جب کہ ہم اپنی تخلیق کے مقصد سے اجمالی طور پر آگاہ ہو گئے تو یہ

مسئلہ زیر خور ہے کہ کیا ساری مشکلات و زحمات اور ناکامیاں یوں سے بھری یہ چند روزہ دنیا اوری زندگی چاری تخلیقین کا مقصد بن سکتی ہے؟ فرض کیجئے کہ میں اس دنیا میں سائٹھ بر س تک زندہ رہتا ہوں اور ساری زندگی ہر روز ر صح سے شام تک اپنی روزی کمائے کے لئے جدوجہد کرتا ہوں اور شب میں تھکا بارا گھرو اپس آتا ہوں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنی تمام عمر میں چند ٹن غذا اور پانی استعمال کرتا ہوں اور فربی زحمتوں اور درد و سری کے بعد ایک گھر کی تعمیر کرتا ہوں اور پھر سب چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جاتا ہوں کیا یہ مقصد اتنا اہم ہے جو مجھے رنج و غم سے بھری ہوئی زندگی پر آنادہ کر سکے۔

یا انکل اسی طرح ہے جیسے ایک انجینئری جوکل میں ایک عظیم عمارت بنائے اور سالہاں اس کے انتظام اور اس کی تنقیل کے لئے زحمت انھائی اور اس میں سارے ضروری وسائل پہیا کر دے اور جب اس انجینئر سے پوچھا جائے کہ اس سے تھا ما مقصد کیا ہے تو وہ یہ کہے : " اس تمام زحمت سے میرا مقصد یہ ہے کہ فقط ایک رنگہ زر جب اس راہ سے گذرے تو وہ اس عمارت میں ایک گھنٹہ استراحت کر لے ۔ "

تو کیا سب ہی اس کی اس بات پر تعجب نہ کریں گے اور یہ کہ میں گے کہ ایک راہی کے ایک گھنٹے کے آرام کے واسطے یہ سارے انتظامات ضروری نہیں میں ہیں ۔

★ ★ ★

اس دلیل کی بنا پر وہ لوگ جو قیامت اور موت کے بعد کی زندگی پر عقیدہ نہیں رکھتے وہ اس دنیا کی زندگی کو بیکار سمجھتے ہیں ۔ اور یہ باقیں مادہ پرستوں کے درمیان زیادہ سنتے میں آتی ہیں کہ اس دنیا کی زندگی بے مقصد ہے یہاں تک کہ ان

میں سے بعض لوگ کچھی کچھی اس لئے خود کشی کر بیٹھتے ہیں کہ وہ اس دنیا کی مادی، ایک ہی طرح کی اور بے مقصد زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ وہ چیز جو ہماری زندگی کو ایک مقصد عطا کرتی ہے اور اسے مناسب اور پُراز حکمت بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی دوسری دیبا (آخرت) کے لئے ایک مقصد بن جائے۔ اور اس زندگی کی ساری مشکلات اور اس کی تمام چیزوں صرف ایک جادو دانی زندگی کو حاصل کرنے کیلئے ہوں۔

اس موقع کے لئے ہم نے سچے ایک مثال دی ہے اور وہ یہ ہے کہ: اگر وہ بچہ جو شکم مادر میں ہے کافی عقل و فهم رکھتا ہو اور اس سے یہ کہا جاتا ہے: تیری اس زندگی کے بعد جو تیرہاں گزار رہا ہے آگے کچھی کچھی نہیں ہے تو یقینی طور پر وہ اپنی اس زندگی پر اغراض کرتا اور کہتا اک اسکا کیا مقصد ہے کہ میں اس ماحول میں مقید رہوں یا خون کھاؤں اور بہن دھے ہوتے ہاستہ پیروں کے ساتھ ایک گوشہ میں پڑا رہوں اور اس کے بعد کچھی کچھی رہو؟

میری اس تخلیق سے پیدا کرنے والے کا کیا مقصد تھا؟! لیکن اگر اس بچہ کو یہ اطمینان دلائیں کہ تمہاری ان چند ہمیںوں کی جلد گزر جانے والی زندگی دنیا کی ایک طولانی زندگی کے لئے مقدار ہے۔ اور وہ دنیا تمہاری شکم مادر کی فضائے زیادہ وسیع اور روشن اور پر عظمت ہے اور اس کی پہنچت اس دنیا میں زیادہ مختلف اقسام کی نعمتوں میں تو بس اس مقام پر وہ بچہ مطمئن ہو جائے گا اور سمجھ لے گا کہ اس کی شکم مادر کی زندگی کا ایک قابل قدر مفہوم و مقصد ہے اور اسی وجہ سے اس زندگی کی زعمتوں کو برداشت کرنا چاہیے۔

قرآن مجید دار شاد فرماتا ہے: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاةَ الْأُولَى

فَلَوْلَاتَ دَتَّ وَدَنَ ۝ اور تم نے پہلی پیدائش تو سمجھہ ہی لی ہے پھر تم غور کیوں نہیں کرتے (کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا کا بھی وجود ہے) ” (سورہ واقع۔ آیت ۶۷)

خلاصہ یہ ہے کہ دنیا اپنے سارے وجود کے ساتھ آواز دیتی ہے کہ اس کے بعد ایک دوسری دنیا ہے ورنہ یہ دنیا الخود بیکار و لم مقصد ہو جائیگی۔ ان الفاظ کو قرآن مجید کی زبانی سے جو ارشاد فرماتا ہے : آفَحَسِبْتُمْ آنَمَا خَلَقْنَاكُمْ فَبَتَّاً وَ أَنْتُمْ كُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝ ” تو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم نے تم کو (یوں ہی) ابیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہمارے حضور میں لوٹا کر نہ لائے جاؤ گے ؟ ”

(سورہ مومنوں۔ آیت ۱۵)

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ”قیامت“، جس کی تعبیر قرآن میں ”خدا کی طرف لوٹ کر جانے“ سے کی گئی ہے صورتی نہ ہو تو انسان کی خلقت بھی بیکار ہے۔

مختریہ کر خلائق کا فلسفہ بتاتا ہے کہ : اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا کا وجود ضروری ہے۔

میم پرچم

## سوچئے اور جواب دیجئے!

- ۱۔ خدا کے صفات کا مخلوقات کی صفات سے موازنہ کیوں نہیں کیا جاسکتا؟
- ۲۔ چاری تخلیق کا کیا مقصد تھا؟
- ۳۔ کیا انسان کی اس دنیا کی زندگی ہی اس کی تخلیق کا مقصد ہے؟
- ۴۔ پیغمبر کی شکل مادر کی زندگی کا اُس کی اس دنیا کی زندگی سے موازنہ ہم کو کتنے بالتوں کا سبق دیتا ہے؟
- ۵۔ قرآن مجید اس کائنات کی تخلیق سے آخوت کے وجود پر کیوں کر استدلال کرتا ہے؟

اکھواں سبق

## روح کی بقا

### قیامت کے لئے ایک علامت ہے

- روح مادی اور الہی فلسفہ کی نظر میں۔
- ایک بڑی دنیا کو چھوٹی سی خضابیں نہیں رکھا جاسکتا۔
- روح کی بیرونی فضائے رابطہ کی خصوصیت۔
- روح کی اصلیت اور استقلال پر تحریٰ دلائل۔

## روح مادی اور الہی فلاسفہ کی نظر میں

کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ انسان نے کس زمانے سے ”روح“ کے وجود کے سلسلے میں سوچنا شروع کیا۔

اسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ شروع ہی سے انسان نے اپنے اور دوسرے مخلوقات کے درمیان ایک فرق محسوس کیا ہے۔ اپنے اور پھر لکڑی، پہاڑ اور جنگل کے درمیان ایک اور اسی طرح اپنے اور حیوانات کے درمیان فرق دیکھا

ہے۔ انسان نے نیند کا مشاہدہ کیا ہے اور اس کی طرح موت کی حالت کو دیکھا ہے۔ وہ دیکھتا تھا کہ بغیر جسم و مادہ میں کسی تغیر کے اس کی نیند اور موت کی حالت میں ایک بڑا فرق پیش آتا ہے اور اسی بندگے سے اسے یہ سمجھے میں آیا اس جسم کے علاوہ اس کے اختیار میں ایک دوسرا گورمہ بھی ہے۔

اور وہ یہ سمجھی دیکھتا تھا کہ وہ حیوانات سے مختلف ہے۔ کیوں کہ وہ خود تو اپنے کاموں کے انجام دینے میں آزادی اور اختیار رکھتا ہے۔ جب کہ حیوانات کی حرکات فطری اور غیر ارادتی ہوتی ہیں۔

خاص طور پر نیند کی حالت میں اور جب کہ اس کے بدن کے حصے یہیں و حرکت ایک گوشے میں پڑے ہوتے ہیں اس وقت اس کا مناظر کا دیکھنا اس بات کی گواہی دیتے تھا کہ اس باوجود پر ایک عجیب و غریب طاقت حاصل ہے جسے

”روح“ کہا جاتا ہے۔

جس وقت دانشوروں نے فلاسفہ کی بنیاد رکھی تو ”روح“ کو دوسرے مسائل کی پہلی نسبت ایک اہم مسئلہ کے طور پر سامنے رکھا۔ اس کے بعد سب ہی فلاسفہ نے اس کے بارے میں اپنی رائے کاظمیہ ایجاد کیا ہیاں تک لیجن اسلامی دانشوروں کے قول کے مطابق روح کی حقیقت اور اس سے متعلق دیگر مسائل پر ہزاروں کی تعداد میں اقوال اور نظریے بیان کئے ہیں۔ اس مقام پر بہت کچھ بیان کیا جاسکتا ہے لیکن اہم ترین بات جس کا جاتا ضروری معلوم ہوتا ہے وہ اس سوال کا جواب ہے کہ :

کیا روح ایک مادی چیز ہے یا غیر مادی؟ یا دوسرے معنوں میں روح خود مستقل ہے یا دماغ اور اعصاب کے طبقاتی (PHYSICAL) یا کیمیائی (CHEMICAL) اثرات کا نتیجہ ہے۔

بعض مادی فلاسفہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ روح اور روح کے مقابلہ بھی مادی ہیں اور دماغ کے خواص سے ہیں اور جس وقت انسان متراہے اس وقت روح ختم ہو جاتی ہے۔ تھیک اسی طرح جس طرح ہم ایک لگھڑی پر اگر تھوڑی مارکر تو ڈیں تو اس کا کام کرنا بھی رک جائے گا۔

ان فلاسفہ کے مقابلہ میں ایسی فلسفی ہیں اور یہاں تک کہ بعض مادی فلاسفی بھی کہ جو روح کی ایک اصلیت کے قائل ہیں اس بات کے معتقد میں کہ جسم کے مرغی کے ساتھ روح نہیں ختم ہوتی بلکہ اپنی زندگی کو جاری رکھتی ہے۔

اس مسئلہ کی روایت کے استقلال اور اس کی بقا کے ثبوت کے لئے بہت اسی اور یقینیہ دلیلیں قائم کی گئی ہیں۔ ہم اس مختصر کتاب میں ان میں سے بعض انتہا۔ - اخراج دلیلیں سادہ ہی ایسی کے ساتھ اپنے عزیز زوجوں کے لئے

پیش کرتے ہیں :

## ۱۔ ایک بڑی دنیا کو چھوٹی سی فضائیں نہیں رکھا جاسکتا۔

فض کیجیے کہ آپ ایک بڑے مسندر کے کنارے بٹھیے ہوئے ہوں کہ جسکے چاروں طرف پہاڑ اپنے سرآسمان کی طرف بلند کئے ہوئے ہیں۔ جوش و خروش سے بھری موجیں بے خوف ہو کر ساحل کے پछروں پر اپنے پانی کو نکالتی ہیں اور تو انہی اور شدت کے ساتھ مسندر میں واپس آجائی ہیں۔

کوہستان کے دامن کے بڑے تھراں بات کا پتہ دیتے ہیں کہ پہاڑ کے اوپر کیا سور ہو گا۔ نیکوں آسمان نے بھی اس کوہ و مسندر پر ایک نیکی پیدا کر دی ہے اور رات کے وقت کے منظر میں وہ اپنی عطرت و شکوہ کا پتہ دیتا ہے۔ ہم ایک لوگ کے لئے اس منظر کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور پھر آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ اس سارے منظر کو ہم نے دیکھا ہے اپنے ذہن میں اسی عطرت و متناسب کے ساتھ ہم محفوظاً کر لیتے ہیں۔

بلاشک اسی ذہنی نقشے اور اس وسعت کے منظر کے لئے عام حالات میں ایک بہت بڑے مقام کی امداد روت ہوگی۔ اور دماغ کے چھوٹے چھوٹے خلیوں (CELLS) میں اس بڑے منظر کا عکس بنانا ممکن نہیں ہے دردناک ایک بڑے سے نقشے کو ایک چھوٹے سے نقطہ پر منطبق ہو جانا چاہئے۔ (دلائیا کید حقیقت یہ ہے کہ ہم اس نقشے کا اس کی ساری وسعت و عطرت کے ساتھ اپنے ذہن میں احساس

کرتے ہیں۔

یہ حقیقت اس بات کا پتہ دلتی ہے کہ جسم میں اپنے جسم اور دماغ کے خلیوں (CELLS) کے ہلاوہ کوئی اور جو ہر کسی موجود ہے جو ہر لفظ کو ہر وسعت اور ہر سائز کے ساتھ اپنے میں منتقل کر لیتا ہے مسلم طور پر یہ مزدوروی ہے کہ یہ جو ہر دنیا کے ادبیات کے اسواہ ہو کر یہاں کر انتیات کیا دنیا میں اسہم الیٰ چیز نہیں ہوتے۔

## ۲۔ روح کی پیر دنی فضائے رابطہ کی خصوصیت

ہمارے جسم میں بہت سی طبیعی و کیمیائی خصوصیات ہیں۔ معدودہ اور دل کی حرکات طبیعی (PHYSICAL) ہیں۔ لیکن لحاب دہن اور صدراہ کا لحاب چہاری ہزار پر ایک کیمیائی عمل کرتے ہیں۔ اس طرح کی مثالیں ہمارے جسم میں بہت سی ہیں۔

اگر دس و نصیال و فکر سب تھی اوتھی ہیں اس فنی دماغ کے خلیوں (CELLS) کا طبیعی اور کیمیائی خصوصیات کا تیجوں ہیں تو ان میں اور چہاری صاریح جسمانی طبیعی (PHYSICAL) خصوصیات میں استثنائیں کیوں موجود ہے؟

تمکو خالی درد و روح ہمارا ارتیاط یا ہر کی دنیا سے جوڑتی ہے اور جو کچھ چارے اور گرد ہوتا ہے اس سے ہیں آنکاہ کرتی ہے۔ لیکن کیمیائی خصوصیات کے عمل جو لحاب دہن اور صدراہ کے لحاب کے ذریعہ اخبار میاپاتے ہیں اور چہاری آنکھوں زبان و دل کی دیگر طبیعیاتی (PHYSICAL) حرکات میں یہ خصوصیت ہرگز نہیں ہوتی۔

وہ سرے مصنون میں اس بات کا سچوپی احساس کرتے ہیں کہ یہ مری دنیا سے ہمارے وجہ کا ارتیاط ہے۔ اور اس دنیا کے مسائل سے جنم آنکاہ ہیں۔ لیکن کیا یہ

باہری دنیا ہمارے وجود اور جسم کے اندر آتی ہے؟ مسلم طور پر نہیں، پھر معاملہ کیا ہے؟

حقیقی طور پر باہری دنیا کا نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے اور جم روح کی اس بیرونی دنیا سے رابطہ کی خصوصیت کے ذریعہ اپنے جسم کا رابطہ باہری دنیا سے قائم کر لیتے ہیں اور یہ خصوصیت ہمارے بدن کی طبیعتی و کیمیائی خصوصیات میں موجود نہیں ہے (غور کیجئے!)

اس کے علاوہ اس بات کو ایک دوسرے طریقہ سے بھی سمجھا جاسکتا ہے: باہری اور مشاہدہ میں آنے والی مخلوقات کے بارے میں معلومات کے لئے ان پر ایک طرح کا احاطہ ضروری ہے۔ یہ احاطہ کرنا دماغ کے فلیلوں (CELLS) کا کام نہیں ہے۔ دماغ کے خلیے (CELLS) صرف باہر سے ہی متاثر ہو سکتے ہیں جیسے جسم کے سارے خلیے (CELLS) متاثر ہوتے ہیں۔

یہی فرق اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ جسم کے طبیعتی اور کیمیائی تغیرات کے علاوہ ایک دوسری حقیقت بھی ہمارے وجود میں کارفرما ہے جو ہمارے وجود کا ارتباً باہری دنیا سے برقرار کرتی ہے۔ اور یہ حقیقت روح کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ ایک ایسی حقیقت جو مادی دنیا اور مادی خصوصیات سے اور اسے۔

\* \* \*

### ۳۔ روح کے اور استقلال پر تجزیہ دلائل

خوش قسمتی سے دانشوروں نے مختلف سائنسیفک اور تجزیہ سیاتی علوم کی مدد سے روح کی اصلیت اور اس کے استقلال کو ثابت کر دیا ہے اور روح

کے استقلال کے مکروں اور سام ان افراد کے لئے جو روح کو مادی خصوصیات کا حامل اور ان کا تابع صحیح ہے میں ایک حکم اور ذہان شکن جواب فراہم کر دیا ہے۔  
 (۱) - ان تمام دلیلوں میں مقناطیسی خواب (HYPNOTISM) کی دلیل اہم ہے کہ اس نے بہت سے تجربوں میں ثبوت بہم پہنچایا ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے اور جنہوں نے یہیں دیکھا ہے ان کے لئے اسکی ایک مختصر شرح ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ :

مختلف قسم کے علم رکھنے والے افراد کسی ایک شخص کے ذریعہ حالتِ خواب میں پہنچ جاتے ہیں جو شخص حالتِ خواب میں یہجاں آتا ہے اسے "عامل" کہتے ہیں اور جسے حالتِ خواب میں یہجاں آتا ہے اسے "مدیوم" کہتے ہیں۔ یہ عاملِ نصیحت، ترک، فکر اور آنکھ کی مقناطیسی طاقت اور ایسے بی دوسرے ذریعوں سے مدیوم کو گھیری نیند کی حالت میں یہجاں آتے ہیں لیکن یہ نیند عام نیند کی طرح نہیں ہوتی بلکہ ایسی نیند جس میں سونے والے سے رابطہ قائم کیا جاتا ہے اور گفتگو کی جاتی ہے اور اس سے جواب سن جاتا ہے۔

اسی حال میں روح اس کو مختلف مقالات پر کھینچتی ہے اور وہ کبھی تازی خبری خود سے لے آتا ہے اور کبھی ایسی اطلاع حاصل کرتیا ہے جو عام حالات میں اسکے پاس موجود نہ تھی۔

کبھی غیر مادری زبان میں کہ ہرگز اس سے واقف نہ تھا، اس مقناطیسی خواب کی حالت میں گفتگو کرتا ہے۔

کبھی اس عال میں ریاضی کے پیچیدہ سوالات کو حل کرتا ہے۔ کبھی تختیوں پر جو صندوق میں رکھی ہوئی ہیں اور اس کا دروازہ مضبوطی سے بند ہوتا ہے، لکھتا ہے۔

اور یہاں تک کہ بھی روحیں واضح سایر کی شکلوں میں ان مقناع طبی خواہوں میں ظاہر ہوتی ہیں کہ جن کی تحریک ہم نے کتاب "خود ارواح" میں کی ہے۔  
 (۲) اپیریٹریزم (SPIRITISM) یا حالت کے بعد ارواح سے ارتباط روح کی اصلیت اور استقلال کی ایک اور دلیل ہے۔

آج بھی ساری دنیا میں روحوں کے نامہن کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے کہ ایک شہر ہر صورتی والشمند "فرید و جدی" کے قول کے مطابق ان کی طرف سے ساری دنیا میں تقریباً یہیں سو جانہ اور اخبار شائع ہوتے ہیں۔ مختلف طبقات کے مشہور اشخاص ان کے جاہوں میں شرکت کرتے ہیں اور ان کے سامنے روحوں سے ارتباط فائم کیا جاتا ہے اور خلاف معمول کام انجام پاتے ہیں۔  
 اگرچہ جیل بیازوں کا ایک گروہ، روحوں سے ارتباط کے سلسلہ پر غیر کسی اطلاع اور علم کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے روحوں سے ارتباط کے علم کا عربی ہے۔ اور اس طرح سے اس گروہ نے بہت حد تک غلط فائماں اکھایا ہے لیکن ان کا یہ غلط فائماں اکھاں ان کی راہ میں رکاوٹ اس لئے ہے جو حکاکہ بڑے بڑے محققین بھی اس واقعیت کے قائل ہیں۔ (۱)

یہ سب ہی انسان کی روح کی اصلیت اور استقلال اور حالت کے بعد اس کی بقاکی دلیلیں ہیں۔ اور قیامت اور حالت کے بعد کی زندگی کی طرف ایک موثر قدم ہے۔

(۲) ہم جب خواب دیکھتے ہیں اور خواب کی حالت میں ہونے والے مظہری

(۱) سزید معلومات کے لئے کتاب "خود ارواح" اور کتاب "معاد و جہاں پس از جہاں" ملاحظہ فرمائیے۔

نظروں کے سامنے مجسم ہو کر آتا ہے، لکھی جبی اس میں آئندہ پیش آنے والے حادثات کے چہرے سے پرده اٹھتا ہے۔ اور پوشیدہ مسائل چمارے سامنے آشکار ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اس طرح ہوتا ہے کہ اسےاتفاق نہیں کہا جاسکتا۔ یہ بھی فی کے استقلال کی ایک دوسری دلیل ہے۔

اکثر افراد کو اپنی زندگی میں سچے خوابوں کے لیعنی نمونوں کا پتہ ہوتا ہے اور انہوں نے سن رکھا ہے کہ یونہر ایک خواب جو کفرلاں دوست اور آشنا نے دیکھا بعینہ اور بغیر کسی گھبی و زیادتی کے ایک مردت کے بعد سچے ثابت ہوا۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ خواب کی حالت میں انسان کی روح کا دوسری دنیاوں سے ارتباط رہتا ہے اور روح آئندہ کے پیش آنے والے حادثات کو بھی دیکھتی ہے۔

ان سب باتوں سے یہ چیز بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ روح نادی نہیں ہے۔ اور انسان کے دماغ کی طبیعتی و کیمیائی خصوصیت کی طرح نہیں بلکہ اس کی ایک ماوراء الطبیعت اصلیت ہے جو اس جسم کی موت کے بعد چمارے درمیان سے نہیں جاتی اور یہ بذات خود قیامت کے مسئلہ اور موت کے بعد کی دنیا کی راہ کو ہمار کرنی ہے۔

## سوچنے اور خواب دیکھنے!

- ۱۔ نادہ پرست اور مذہبی فلسفیوں کے درمیان روح کے مسئلہ میں کیا ذریق ہے؟
- ۲۔ بڑی چیز کے چھپوٹی چیز سے منطبق نہ ہونے کے فلسفے جو کہ روح کے استقلال کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے سے کیا مراد ہے؟
- ۳۔ مقناطیسی خواب سے آپ کیا تجھتے ہیں؟
- ۴۔ روحوں سے ارتباً طاکا کیا مطلب ہے؟
- ۵۔ سچے خواب روح کے استقلال کے لئے کیونکہ بثوت ہیں؟



نوال سبق

# جسمانی اور روحانی قیامت

- آیا قیامت جسمانی ہے یا جسمانی اور روحانی۔
- جسمانی قیامت کا فرقہ ان سے ثبوت ۔
- عقل اور قیامت جسمانی ۔
- جسمانی قیامت کے بارے میں بعض سوالات اور انکے جوابات۔

## آپا قیامت جسمانی ہے یا جسمانی اور روحانی؟

قیامت کے موضوع پر ابراہم سولالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا قیامت صرف ایک روحانی پہلو رکھتی ہے یا ان کا جسم بھی دوسری دنیا میں واپس جاتا ہے؟ اور کیا ان اسی روح اور جسم کے ساتھ جو اس کے پاس دنیا میں سخافر ایک اچھی اور اُپنی سطح پر اپنی زندگی کو دوسری دنیا میں جاری رکھتے ہیں؟ پچھے قدیم فلاسفہ صرف روحانی قیامت کے قائل تھے اور جسم کو ایک ایسا مرکب سمجھتے تھے جو انسان کے لئے صرف اس دنیا میں ضروری ہے اور موت کے بعد انسان جسم سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اسکو آزاد کر کے عالم ارواح کی طرف بڑھ جاتا ہے۔

لیکن اسلام کے ہر بڑے علماء اور بہت سے فلاسفہ کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت دونوں پہلوؤں کے ساتھ یعنی روحانی اور جسمانی پہلوؤں کے ساتھ ضروری ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ان کا جسم مٹی ہو جاتا ہے اور یہ مٹی زمین میں بکھر کر غائب ہو جاتی ہے لیکن وہ خدا جو قادر اور عالم ہے مٹی کے ان ذرات کو قیامت میں اکھٹا کر کے اس پر شیئی زندگی کا ایک بیاس پہناتا ہے اور اس کو "جسمانی قیامت" کہتا ہے۔ روح کی بازگشت یا "روحانی قیامت" کو مسلم طور پر مانتے ہیں اور چون کہ بحث صرف جسم کی بازگشت یا "جسمانی قیامت" کے مسئلہ میں ہوتی ہے اس لئے یہ نام (جسمانی قیامت) اس عقیدہ کے لئے منتخب کیا گیا ہے۔

بہر حال قرآن مجید کی دادہ تمام آئیں جو قیامت کے سلسلے میں تفصیل بتاتی ہیں بہت زیادہ تعداد میں گوانگوں ہیں اور ان سب کا اختصار "جسمانی قیامت" پڑھتے ہیں۔

\* \* \*

## جسمانی قیامت کا وہ آن سے ثبوت

(۱) پہلے ہم پڑھ کچے ہیں کہ کس طرح ایک صحرائی عرب پیغمبر کی خدمت میں بوسیدہ مدد یوں کو ناٹا ہے اور کہتا ہے : "کون ہے جو ان بوسیدہ مدد یوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہو ؟ اور پیغمبر اکرم خدا کے حکم سے جواب دیتے ہیں : وہی انھیں زندگی کے لئے اپنے پہلے روز خلق کیا تھا۔ وہی جس نے آسمان دزین کو پیش کیا ہے۔ اور وہی جو سبز درخت کے اندر سے آگ باہر نکالتا ہے جیسا کہ سورۃ قیامت کی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔

(۲) ایک دوسرے مقام پر قرآن ارشاد فرماتا ہے : "وَقِيَامَتُ كَدَنْ  
ثُمَّ اپنی قبروں سے نکلنے کیلئے پروردگار کی طرف پہل کھڑے ہو گے"  
(سورۃ قیامت، آیت ۱۵ اور سورۃ قمر، آیت ۷)

اور ہم جانتے ہیں کہ قبریں جسموں کی جگہ ہیں جو مٹی ہو جائیں گے نہ کہ رو جوں کی جگہ۔

(۳) اصولی طور پر قیامت کے منکروں کو سارا تعجب اس بات پر تھا کہ وہ کہتے سمجھتے : "مَجِبٌ هُمْ مُتْهَىٰ ہو جائیں گے اور یہ مٹی چاروں طرف بکھر جائیں گی تو پھر کیونکہ دوبارہ ہماری زندگی پلٹ آئے گی" ۱ وَقَالُوا إِذَا أَضْلَلْنَا فِي الْأَخْرَى مِنْ

## اُبئَنَاهُنِي خَلِقَ حَجَدٌ ۚ

(سورہ سجدہ، آیت ۱۰)

اور قرآن مجید ان لوگوں کو جواب دیتا ہے کہ جس خدا نے ان کی پہلی پل تخلیق کی وہی ان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اَوَلَمْ يَرَهُ أَكْيَفَ يَعْدِي دِيْنَ اللَّهِ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدَهُ ۖ إِنَّ ذَا إِلَكَ عَنَّ اللَّهِ تَبَيِّنَ ۝ : ”بس کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ خدا کس طرح مخلوقات کو پہلی پل پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہ تو خدا کے نزدیک بہت آسان بات ہے“

(سورہ عنكبوت، آیت ۱۹)

(۲) جاہل عرب کہتے تھے: آیَعَدَكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مُتُمْ وَكُنْتُمْ مُّرَايَا وَعِظَالًا فَأَنْكِنْهُمْ حُجَّةً مُّجَوَّنَ ۝ و مکس طرح شخص (محمد) تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور (مرکر) صرف مٹی اور پتہ لیاں (بن کر) رہ جاؤ گے تو تم دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے نکالے جاؤ گے“

(سورہ مومان، آیت ۳۵)

قرآن کی یہ صحی تعبیریں اور وضاحتیں واضح طور پر اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ہر موقع پر جسمانی قیامت کے بارے میں بتایا ہے اور کوتاہ نظر مشرکین کو تعجب کھجی اسی جسمانی قیامت کے سلسلہ میں حقاً چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اسی جسمانی قیامت کی مختلف قسم کی سیروں کے دوبارہ زندہ ہونے کی مثال دیکھ کر شرکت کرتا ہے جس کا ہم پار بارہ تاریخی میں اور اسی طرح قرآن خدا کی پہلی پل کی تخلیق اور اس کی دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا ثبوت پیش کرتا ہے۔

اس بناء پر یہ ملکن نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو اور قرآن کے بارے میں کے

تھوڑی سی بھی معلومات ہوں اور وہ جسمانی قیامت سے انکار کرے۔ قرآن کے مطابق جسمانی قیامت سے انکارا صل میں قیامت سے انکار کے مترادف ہے۔

## عقلی ثبوت

اس سے قطع نظر عقل کہتی ہے کہ روح اور جسم دو الگ حقیقتیں بھی نہیں ہیں استقلال کی حالت میں بھی ایک دوسرے سے ارتباٹ اور لگاؤ رکھتی ہیں۔ دونوں کی ساختہ ساتھ پر ورش ہوتی ہے اور ساختہ ساتھ ان میں ترقی ہوتی ہے۔ اور مسلم طور پر ابدی زندگی کے لئے ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے۔

اگرچہ برزخ (موت کے بعد سے روز قیامت تک کامانہ) کے زمانے کے دوران روح جسم سے الگ رہتی ہے لیکن ہمیشہ کے لئے یہ جدائی ممکن نہیں ہے۔ جس طرح جسم بغیر روح کے بیکار ہے اسی طرح روح بھی بغیر جسم کے ناقص ہے۔ روح ایک فرمازدا اور حکمران کی امند ہے اور جسم فرمانبردار اور آلا کار کی امند ہے۔ کوئی حکمرانی فرمانبردار کے بغیر یا کوئی ہرمندی آلا کار کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

البتہ قیامت میں روح چونکہ اس دنیا کی سطح سے بالآخر جگلتی ہے اسی لئے اسی نسبت سے جسم کو بھی چاہئے کہ ترقی کرے اور روح کی طرح اطیف داپک ہو جائے۔ یعنی قیامت میں انسان کا جسم اس دنیا کے عینوں۔ خامیوں اور نقاصل سے مبڑہ ہو۔

بہر حال جسم اور روح ایک دوسرے کے ساتھی اور ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ قیامت صرف روحانی

یا جسمانی پہلوں کے۔

دوسرے معنوں میں جسم اور روح کی تخلیق کے مطابع اور انکا آپس میں ارتباط اور ایک دوسرے سے ہم آہنگی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قیامت جسمانی اور روحانی دونوں پہلوؤں سے رونما ہو۔

دوسری طرف انصاف پر بینی قانون بھی یہ کہتا ہے کہ : قیامت کو دونوں پہلوؤں سے ہونا چاہئے کیوں اگر ان نے گناہ کیا تو گواہ کی رو حجہ جسم دونوں نے وہ گناہ کیا ہے۔ یا اگر اس نے نیک کام کیا ہے تو وہ بھی اس کی رو حجہ اور جسم نے مل کر کیا ہے۔ اس بناء پر سزاد جزا کے لئے بھی یہی رو حجہ اور جسم مستحق ہوں گے اور اگر صرف جسم یا صرف رو حجہ کی بازگشت ہو تو پھر انصاف پر بینی قانون ناقدر نہیں ہوا۔

## جسمانی قیامت کے بارے میں سوالات

اس موصوع پر دانشوروں نے بہت سے سوالات کئے ہیں جن میں سے بعض پر اس بحث کی تکمیل کے لئے خوب کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

علم طبیعت کے ماہرین کی تحقیقات کے مطابق انسان کا جسم اپنی عمر کے دوران کئی بار بدلتا ہے۔ یعنی بالکل تیرتا کے حوضہ (SWIMMING POOL) میں رہنے والے پانی کی طرح ہوتا ہے کہ یہ پانی حوض میں ایک طف سے آتا ہے اور دوسری طرف سے آہستہ آہستہ نکلتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ وقت کے بعد اس حوض کا مٹام اپنی بدل جاتا ہے۔

یعنی انسان کے بدن میں تقریباً یہ سال کے بعد ایک بار انہام پاتا ہے۔ اس بناء پر جم اپنی عمر کے دوران کئی بار بدل جاتے ہیں۔

اب یہ سوال ہوتا ہے کہ ان جسموں کی کون سی شکل قیامت میں دوبارہ زندہ کی جائے گی۔

اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم کی آخری شکل قیامت میں پہلی جایگی جیسا کہ ہم نے یہاں پر بیان کی گئی قرآن کی آیتوں میں پڑھا ہے کہ خداوند عالم نے انسانوں کو ہی بوسیدہ اور خاک شدہ ہڈیوں سے دوبارہ تخلین کرے گا۔ اور اس بیان کا مفہوم یہی ہے کہ ہمارے بدن کی آخری شکل کی ہی بازگشت روز قیامت ہوگی۔

البتہ اس مقام پر ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بدن کی آخری شکل عمر بر کی تمام شکلوں کے آثار اور ان کی خصوصیات، اپنے میں محفوظ رکھتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہمارے جسم جو تبدیر تک ختم ہونے لگتے ہیں وہ تمام آثار اور خصوصیات آئندہ شکل لینے والے بدن کو منتقل کر دیتے ہیں اور اسی بناء پر جسم کی آخری شکل جسم کی مختلف شکلوں کی صفات کی وارث ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس آخری جسم پر انصاف کے قانون کے رو سے قیامت میں ثواب و عذاب کیا جاسکتا ہے۔




بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ٹھی ہو جاتے ہیں اور ہمارے ذرات گھاس اور چھولوں کا جرم بن جاتے ہیں اور نتیجتاً کسی دوسرے انسان کے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو پھر قیامت کے دن کیا ہو گا (یعنی وہی چیز ہے جسے فلسفہ اور کلام میں ”شبھہ اکل و مساکول“ کہا جاتا ہے) اگرچہ اس سوال کا جواب تفصیل طلب ہے لیکن ہم اس بات کی کوشش

کریں گے کہ اس مختصر بیان میں یہاں پر ضروری حد تک وضاحت کریں  
 اس سوال کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ تم طور پر ایک انسان کے بدن  
 کے جو ذرے مٹی کی شکل میں بدل گئے ہیں اور دوسرے انسان کے بدن کے  
 حصوں کا بزرگیں چکے ہیں تو وہ ذرے اپنے پہلے جسم کی طرف لوٹ آئیں گے۔  
 (قرآن کی جو آیتیں سبیلے بیان کی گئی ہیں وہ بھی اس مفہوم کی وضاحت کرنی ہیں)  
 یہاں پر صرف مشکل یہ پیش آتی ہے کہ اس صورت میں دوسرے انسان  
 کا بدن ناقص ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں چاہتے یہ کہیں کہ دوسرے انسان کا  
 بدن ناقص نہیں ہو گا بلکہ جھوٹا ہو جائے گا۔ یونکہ یہ ذرات سارے بدن میں  
 پھیلے ہوتے تھے جبوقت یہ اپنے پہلے بدن کی طرف لوٹانے کے لئے واپس لئے  
 جاتیں تو اس وقت اس دوسرے انسان کا بدن اسی نسبت سے کمزور اور  
 چھوٹا ہو جائے گا۔

اس بنا پر تو پہلے انسان کا بدن ختم ہوتا ہے اور نہ ہی دوسرے  
 انسان کا۔ صرف یہ بات ضرور ہے کہ دوسرے انسان کا بدن جھوٹا ہو جاتا  
 ہے۔ اور یہ چیز کوئی مشکل پیدا نہیں کرتی۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قیامت  
 کے دن انسانوں کے جسم بھی۔ ارتقائی منازل طریقے کے گے۔ اور ان کے  
 ناقص اور ان کی بھیان بر طرف ہو جائیں گی۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک  
 بچہ بڑھتا ہے یا ایک زخمی انسان کے جسم میں نیا گوشہ پیدا ہوتا ہے اور اس  
 شخصیت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ قیامت میں ووکہ ایک دنیا کے کمال  
 ہو گی ناقص اور چھوٹے بدن کا مل صورت میں محشور ہو گے۔  
 اور اس طرح اس سلسلہ میں کوئی مشکل باقی نہیں رہ جاتی

(غور کیجئے!)

(مزید معلومات اور توصیحات کے لئے کتاب "معاد و جہان پس از مرگ" ملاحظہ فرمائیں۔)



## سوچتے اور جواب دیجئے!

- ۱۔ کیا قیامت میں ان کی زندگی ہر لمحہ سے اس کی اس دنیا کی زندگی کی طرح ہوگی؟
- ۲۔ کیا ہم قیامت میں ملنے والی بڑاؤں اور سزاوں کو اس دنیا میں محسوس کر سکتے ہیں؟
- ۳۔ کیا بہشت کی نعمتیں اور دوزخ کے غذاب صرف جسمانی پہلوں کھتے ہیں؟
- ۴۔ اعمال کے محیم ہونے سے کیا مراد ہے؟ اور اس پر قرآن کیونکر دلالت کرتا ہے؟
- ۵۔ اعمال کے محیم ہونے کا عقیدہ قیامت کے بارے میں کن مشکلات کو حل کرتا ہے؟



مقصد ای من توئی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

دسوال سبق

# بہشت اور دُوزَخ اور اعمال کا مجسم ہو کر ظاہر ہونا



- کیا موت کے بعد والی دنیا اسی دنیا کی طرح ہے ؟
- آیا اس دنیا کی حکومت کا نظام بھی اسی دنیا کے نظام حکومت کی طرح ہے ؟
- اعمال کا مجسم ہو کر ظاہر ہونا۔

## کیاموت کے بعد والی دنیا اسی دنیا کی طرح ہے؟

بہت سے لوگ خود سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیاموت کے بعد والی دنیا اسی دنیا کی طرح ہے یا اس سے مختلف ہے؟ اُس دنیا کی نعمتیں اور سزا تین اور وہاں پر راجح نظام اور قوانین کیا اس دنیا کی ماتندر ہیں؟ اس کے جواب میں تصریح کے ساتھ یہ کہنا ضروری ہے کہ : چارے پاس بہت سے ثبوت ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اُس دنیا اور اس دنیا میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہاں تک کہ قیامت کے بارے میں بھی ہم جو کچھ جانتے ہیں وہ بھی بس ایک سراب کی ماتندر ہے۔

بہتر سبھی ہے کہ ”ہم شکم مادر کے بچے“ کی شال سے ہی یہاں پر کام لیں۔ جتنا شکم مادر کی دنیا میں اور اس دنیا میں فرق ہے اتنا ہی یا اس سے زیادہ فرق ”اس دنیا“ اور ”دوسری دنیا“ میں ہے۔

اگر شکم مادر میں رہنے والا بچہ عقل و ہوش رکھتا ہوتا اور چاہتا کہ باہری دنیا کی یعنی آسمان و زمین، سورج، چاند اور ستاروں، پہاڑوں، جنگلوں اور دریاؤں کی تصویر اپنے ذہن میں رکھئے تو تم طور پر وہ کسی طرح بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس بچے کے لئے بوشکم مادر میں ہے اور شکم مادر کے محدود داماؤں کے علاوہ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے اس کے لئے چاند و سورج و سمندر اور موجیں اور طوفان، نیسم و گل اور اس دنیا کی زنگینیاں کوئی مفہوم نہیں رکھتی ہیں۔ اس کی دنیا کی معلومات کی لغت میں صرف چند الفاظ ہی ہوتے ہیں۔ اور شکم مادر کے باہر سے کوئی اسے کتنا ہی اس دنیا کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کیوں نہ کرے لیکن وہ بچہ اسکی ان بالوں کو نہیں سمجھ سکتا۔

اس محدود دنیا کا اس انتہائی وسیع دنیا سے اتنا ہی یا اس سے کچھ زیاد فرق ہے۔ اس بناء پر ہم بالکل اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ دوسری دنیا کی نعمتوں اور قوانین اور بہشت وغیرہ کی اصل حقیقت سے مطلع ہو سکیں۔

اس نئے ہم ایک حدیث میں پڑھتے ہیں : فیهَا مَا لَاعِنَ وَأَتَ وَلَا أَذْنَ سمعت ولا خطر عَلَى قُلْبِ بَشَّرٍ : (بہشت میں ایسی نعمتوں میں جنھیں آنکھوں نے نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی دماغ نے اس کے بارے میں سوچا ہے)۔

اور قرآن مجید نے اسی مفہوم کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے :

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَى دَهْمَمُ مِنْ قُتْلَةٍ أَعْيُنٌ حَجَنَاءُ يَمَّا كَانُوا أَيْعَمَلُونَ ۝ وہ ان لوگوں رہنمک اعمال کرنے والوں کے نیک اعمال کے بدلتے میں کیسی کیسی آنکھوں کو طہنڈک دینے والی نعمتوں ان کے لئے ڈھکی چھپی رکھی ہیں اس کو تو کوئی شخص جانتا ہی نہیں۔

(سورہ سجدہ آیت ۱۴)

## آیا اس دنیا کی حکومت کا نظام بھی اس دنیا کے نظام

### حکومت کی طرح ہے؟

اس دنیا کی حکومت کا نظام بھی اس دنیا کے نظام حکومت سے بہت الگ ہے مثلاً : قیامت کی عدالت میں انسانوں کے اعمال کے گواہ ان کے ہاتھ پر، ان کے جسم کی کھال اور یہاں تک کہہ زمین گواہ ہو گی جس میں انھوں نے

گناہ کئے ہوں گے : الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَنَكْلِمُنَا آيُدِيهِمْ  
وَنَشَهِدُ أَسْجَلَهُمْ بِمَا كَلَّوْا يَكْسِبُونَ ۝ ”آج ہم ان کے منہ پر مہر  
لگادیں گے اور جو جو کارست ایسا یہ لوگ (دنیا میں) کر رہے تھے خود ان کے  
باہم ہم کو بتا دیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔“

(سورہ ریم۔ آیت ۴۵)

وَقَالُوا لِجِنُودِ هُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ۝ قَاتُلُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ  
الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَ كُلَّ أَوْلَ مَرَةً وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝  
” اور یہ لوگ اپنے اعضا سے کہیں کے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی  
دی تو وہ بواب دیں گے کہ جس خدا نے ہر چیز کو گویا کیا اس نے ہم کو بھی (ایسی قدر  
سے) گویا کیا اور اسی نے ہم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور (آخر) اسی کی طرف لوٹ کر  
جاوے گے۔“

(سورہ فضیلت (حمد السجدہ)۔ آیت ۲۱)

ابتداء مسائل کا تصور اب سے کچھ زمانہ قبل تک مشکل تھا۔ لیکن علوم کی  
ترقی کے ساتھ ساتھ مناظر کے عکس اور آواز کو ٹیپ کرنے کے نمونوں کو دیکھ کر اب  
یہ باتیں بالکل تجھب خیز نہیں رہیں۔

بہر حال اگرچہ ہم اس دنیا کی نعمتوں کا دور سے تصور ہی کر سکتے ہیں اور ان  
کی وسعت و اہمیت اور خصوصیات سے صحیح طور پر واقف نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس  
اس حد تک جانتے ہیں کہ اس دنیا کی نعمتوں اور نزاکتیں جسمانی اور روحانی دونوں  
پہلو رکھتی ہیں۔ کیوں کہ معاوی جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی۔ اور یہ فطری بات  
ہے کہ نزاکتی بھی دونوں پہلوؤں سے ہونی چاہئے۔

لیکن جس طرح قرآن مجید نے مادی و جسمانی پہلو کے لئے ارشاد فرمایا:

دَيْشُوا إِلَّا دِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصِّلَاحَتِ أَنَّ لَهُمْ مَحْتَاجَتٍ تَجْرِي  
مِنْ تَحْرِثَهَا الْأَنْهَارُ مُكْلَمَاتٍ ذُفُرٌ أَمْنَهَا مِنْ ثَمَلٍ كَذَرٌ دُفَّاتَ الْأَلْوَانُ  
هَلَّا أَنَّ دِينِي صِرْزَقَنَامُ قَبْلٌ لَا وَأُولُوْبِهِ مُمْسَاجِهَا وَلَهُمْ فِيهَا  
أَزْوَاجٌ مُطْهَرَةٌ وَهُنْ فِيهَا حَلِيمُونَ ۝ وَ اور جو لوگ ایمان لائے  
اور انھوں نے نیک کام کئے ان کو راے پیغمبر (ص) خوشخبری دید سمجھئے کہ ان کے لئے  
(بہشت کے) وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب انھیں ان باتا  
کا کوئی میوہ کھانے کو ملے کا تو کہیں گے یہ تو وہی (میوہ ہے) ابھی پہلے  
بھسی ہیں کھانے کو مل چکا ہے۔ انھیں ملتی صورت و زنگ کے (میوہ)  
ملکریں گے اور بہشت میں ان کے لئے صاف ستری بی بیاں ہوں گی اور یہ  
لوگ اس باغ میں ہمیشہ رہیں گے۔

(سورہ بقرہ۔ آیت ۲۵)

اسی طرح قرآن مجید روحاںی نعمتوں کے بارے میں یوں فرماتا ہے :

وَسِرْضُقَانَ وَنَنَ اللَّهُ أَكْبَرُ مَا ذَالِكَ هُوَ الْفَوْسُ الْعَظِيمُ ۝ اور (ان  
بہشتیوں کے لئے) خدا کی رضا اور خوشنودی ان سب نعمتوں سے بالاتر ہے کیونکि  
توبہ اعلیٰ درجہ کی کامیابی ہے۔

(سورہ توبہ۔ آیت ۴۶)

حقیقت یہ ہے کہ بہشت کے رہنے والے انسان اس احساس سے، کہ  
خدا ان سے راضی ہے اور پروردگار عالم نے ان کو اپنی نعمتوں سے فواز ہے،  
ایسے لطف و مسرت کو محکوس کرتے ہیں جس کا کسی چیز سے مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔  
اسی طرح دوزخ کے رہنے والے انسانوں کے لئے جہنم کی آگ اور جسمانی  
غذابوں کے علاوہ ان کے شامل حال جو خدا کا عینض و غضب اور اس کی ناخوشی

ہوتی ہے وہ ان کے لئے ہر سزا سے بدرت ہے۔

\* \* \*

## اعمال کا محبتمن ہو کر ظاہر ہونا

یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن کی بہت سی آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت میں ہمارے اعمال زندہ ہو کر سامنے آتیں گے۔ اور مختلف شکلوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور اعمال کا اس طرح محبتمن ہو کر سامنے آنا جزا دسرا کا ایک اہم طریقہ ہو گا۔

ظلم و ستم ایک یاہ بادل کی شکل میں ہم کو گھیر لے گا جیسا کہ پیغمبرؐ کی ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے : الظالم هواظلمات یوم القیمة " یعنی ظلم قیامت کے دن تاریخی کی صورت میں ظاہر ہو گا۔

تینیوں کے مال پر ناجائز طور پر قبضہ ہم کو اُنگ کے شعلوں کی صورت میں گھیر لے گا جیسا کہ سورہ نسا کی آیت ۱۲ میں بیان کیا گیا ہے : إِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُولِ نِعَمَهُ مَا نَأَرَأَاهُ وَسَيَصْلُوْنَ سَعِيرًا ۝ " جو لوگ تینیوں کے مال ناخن چٹ ک جایا کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں اُبسانگار بھرتے ہیں اور عنقریب جہنم واصل ہوں گے۔ " اور ایمان ایک نور اور روشنی کی شکل میں ہمارے چاروں طرف ظاہر ہو گا۔ جیسا کہ سورہ حیدر کی آیت ۱۲ میں بیان کیا گیا ہے : يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ لُؤْمَهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشَّرَ أُكُمُ الْيَوْمَ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا

ذالاک هُوَ الْفَوْسُ الْعَظِيمُ ۝ ” جس دن تم مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے اور داہمی طرف چل رہا ہو گا تو ان سے کہا جائے گا تم کو بشارت ہو کر آج تمہارے لئے وہ باع یہیں جن کے نیچے نہریں جاری میں ان میں ہمیشہ رہو گے اور یہی تو بڑی کامیابی ہے؟“  
اسی طرح جن سود خواروں نے اپنے خراب اور گندے علی سے معاشرہ کے انصاف پر بنی اقتضاد کو درہم برہم کیا ہو گا وہ تشبیحی اور اعصابی بیماریوں کی مانند ہو جائیں گے کہ اٹھنے کے وقت اپنے جسم کا توازن خود برقرار رکھ سکیں گے۔ کبھی زیمن پر گریں گے تو کبھی اٹھیں گے جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ۲ میں بیان گیا ہے :

مال کا ذخیرہ کرنے والے اور دولت جمع کرنے والے بخیلوں بعضاوں نے محو میں کے حقوق ادا نہیں کئے، کی گردنوں میں ایک ایسا ستین طبق ہو گا کہ وہ حرکت تک رسکیں گے جیسا کہ سورۃ آل عمران کی آیت ۱۸۰ میں بیان کیا گیا ہے : وَلَا يَخْسِبُنَ الَّذِينَ يَعْجَلُونَ بِمَا أَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ حَيْرًا لَهُمْ إِنَّ هُوَ شَرُّ لَهُمْ سَيِّطَرُوْنَ مَا يَعْجَلُو اِبْرَاهِيمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَمْ يَلْوُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَسْرَارِ وَاللَّهُ يُمَدِّعُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَبِيبٌ ۝ ” اور جن لوگوں کو خدا نے اپنے فضل و کرم سے کچھ دیا ہے اور پھر خل کرتے ہیں وہ ہرگز اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ ان کے لئے کچھ بہتر ہو گا بلکہ یہ ان کے حق میں بدتر ہے کیونکہ جن مال کا بخل کرتے ہیں عنقریب ہی قیامت کے دن اس کا طوق بن کر ان کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ اور سارے آسمان و زمین کی میراث خدا ہی کی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے؟“

اور اسی طرح تمام اعمال اپنی مناسبت سے کسی نکسی شکل میں مجسم ہو کر

ظاہر ہوں گے۔

ہم جانتے ہیں کہ جدید علوم کے مطابق دنیا میں کوئی چیز نابود نہیں ہوتی۔ ارادہ اور قوت (ENERGY) ہمیشہ کسی نکسی شکل میں باقی رہتی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے افعال و اعمال بھی ان دونوں (ارادہ و قوت) کے قانون سے الگ نہیں ہیں۔ اور اسی قانون کے مطابق ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں خواہ انکی شکل کتنی ہی کیوں نہ بدل جائے۔

قرآن مجید قیامت کے بارے میں مختصر اور متوجہ کرنے والی عبادت میں ارشاد فرماتا ہے : وَ فَجَدُّوْ اَمَاْعِيلُّوْ اَحَاضِرًا وَّ اُوْرَجُوْ كَچَه ان لوگوں نے (دنیا میں) کیا اخفاہ سب موجود پاییں گے ॥

(سورہ کہف۔ آیت ۲۹)

حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو بھی سزا ملیگی وہ ان کے اعمال کی بناء پر ہی ملے گی اور اسی لئے اسی سورہ کہف کی آیت ۲۹ میں اس جملہ کے بعد فوراً قرآن مجید مزید ارشاد فرماتا ہے : لَيَظِلْمَهُ سَبُّكَ لَهُدَأْ ۖ " اور تیراپر ورد گار کسی پر (ذرہ برابر) ظالم نہ کرے گا۔ "

ایک دوسرے مقام پر قرآن میں ہم روزِ قیامت کے بارے میں پڑھتے ہیں : يَوْمَئِنِ يَصْدُّقُ النَّاسُ أَسْتَانَاتِ يَرِدُّوْ اَعْمَالَهُمْ ۚ " اس دن لوگ گروہ گروہ (اپنی اپنی قبروں سے) نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں ۔ "

(سورہ زیلal۔ آیت ۶)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ تَكَبِّرَ كَمْ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّوْيَرَ كَمْ : تو جس شخص نے ذرہ برابر نہیں کی ہے وہ اسے دیکھ لے گا اور جس شخص نے ذرہ برابر بدی کی سے تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ " (حدیث انزال۔ آیت ۷۸)

غور کیجئے کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کو خود دیکھیں گا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے چھوٹے بڑے اور نیک و بد اعمال اس دنیا میں باقی اور حفظ نہ رہتے ہیں اور ختم نہیں ہوتے اور قیامت میں بھی ہمارے ساتھ ہر جگہ پر رہیں گے، ہم سب کے لئے ایک انتباہ ہے تاکہ ہم خرابیوں اور برآبیوں سے سختی کیساتھ دور رہیں اور نیکیوں کی راہ پر چلنے کی دل سے کوشش کریں۔

دچپ پ بات یہ ہے کہ آج ایسے آلات ایجاد ہو چکے ہیں جو اس مسئلہ کی عکاسی اسی دنیا میں ہمارے لئے کر سکتے ہیں۔

ایک دانشور لکھتا ہے : آج مصر کے دو ہزار سال قبل کے متی کے برتن بنانے والوں کی آوازوں کی لہروں کو اس طرح منعکس کرنا ممکن ہے کہ وہ آوازیں سننے کے قابل ہوں۔ مصر کے عجائب گھروں میں دو ہزار سال قبل بنائے گئے وہ متی کے برتن باقی ہیں جن پر بناتے وقت مخصوص پہنچے اور ہماقتوں کے ذریعہ سے کاریگروں کی آوازوں کی لہروں کے نقش بنے ہیں اور آج ان لہروں کو پھر سے اس طرح زندہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے کافوں سے ان آوازوں کو سن سکیں۔

بہر حال قیامت کے مسئلہ اور نیکوکاروں کی ابتدی بحراں اور بدکاروں کی ہمیشہ رہنے والی سزاویں کے بارے میں بہت سے سوالات کے جوابات قرآن مجید میں دیے گئے ہیں۔ اور اعمال کے محض ہونے اور اس مسئلہ پر بھی کہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور برے عمل کا اثر روح و جان پر ہوتا ہے اور جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی، ان سب سوالات کے جوابات قرآن مجید میں موجود ہیں۔

۱۳۴۲ء میں جرجی شمسی

ناصر کارم شیرازی

## سوچئے اور جواب دیجئے!

- ۱۔ کیا قیامت میں انسان کی زندگی ہر لمحہ اڑ سے اس کی آس دنیا کی زندگی کی طرح ہو گی؟
- ۲۔ کیا ہم قیامت میں ملنے والی بڑاؤں اور سزاوں کو اس دنیا میں محسوس کر سکتے ہیں؟
- ۳۔ کیا بہشت کی نعمتیں اور ووزخ کے عذاب صرف جسمانی پہلو رکھتے ہیں؟
- ۴۔ اعمال کے محبت ہونے سے کیا مراد ہے؟ اور اس پر قرآن کیوں کر دلالت کرتا ہے؟
- ۵۔ اعمال کے محبت ہونے کا عقیدہ قیامت کے بارے میں کہ مشکلات کو حل کرتا ہے۔

